

نماز کی تفسیر

حجۃ الاسلام و المسلمین محسن قرائتی

مجمع جهانی اہل بیت (علیہم السلام)

حرف اول ۱۳

بیش لفظ ۱۵

پہلا باب

عبادت و عبودیت ۱۷

عبادت کیا ہے؟ ۱۹

فطرت و عبادت ۱۹

عبادت کی بنیاد ۲۱

عبادت کی گہرائی ۲۳

عبادت سے بے توجہی ۲۳

رضائے الہی محور عبادت ہے ۲۴

عبادت کا جذبہ ۲۵

عبادت میں اعتدال ۲۶

عبادت میں انتظامی صلاحیت ۲۸

عبادت شب و روز کا دواخانہ ہے ۲۹

عبادت سکون کا باعث ہے ۲۹

عبادت کا ماحصل ۳۱

ایمان و عبادت کا ایک دوسرے میں اثر ۳۲

قرآن مجید میں عبادت کا فلسفہ ۳۲

نماز ، امام علی کی زیبائی ۳۳

عبودیت و بندگی کے اثرات و برکات ۳۶

عالم بستی پر اختیار ۴۱

تصویر نماز ۴۶

نماز اور قرآن ۴۹

نماز اور قصاص ۵۰

عبادت و امامت ۵۰

نماز اور ربیری ۵۲

عبادت کے درجات ۵۳

تصویر عبادت ۵۶

مشکل کشا نمازیں ۵۸

نماز جعفر طیار ۵۸

نماز کا تقدس ۶۰

جامعیت نماز ۶۱

دوسرا باب

نیت ۶۹

خالص نیت ۶۹

قصد قربت ۷۱

تقرب الہی کے درجات ۷۲

خدا کو خدا کے لئے یاد کریں ۷۴

تقرب الہی کے حصول کا راستہ ۷۶

ایک واقعہ ۷۷

کیفیت یا مقدار ۷۸

یادگار واقعہ ۷۹

ایک واقعہ ۸۰

نیت کام کو اہمیت دیتی ہے ۸۰

دو واقعات ۸۲

سرگزشت ۸۴

پاک نیت کے اثرات و برکات ۸۵

عمل پر نیت کی برتری ... ۸۹

نیت کے درجات ... ۹۰

سزا کے مسائل میں نیت کا اثر ۹۱

معرفت ، قصد قربت کا پیش خیمہ ہے ۹۲

غلط نیت کے اثرات ... ۹۳

تیسرا باب

تکبیرۃ الاحرام ۹۹

اللہ اکبر ۹۹

دوسری نمازوں میں تکبیر ... ۱۰۱

نماز میں کس طرح سے تکبیر کہیں ۱۰۱

تکبیر کے معانی ۱۰۱

تکبیر ، اسلامی تمدن میں ... ۱۰۲

چوتھا باب

سورہ حمد ۱۰۹

سورہ حمد میں تربیت کے سبق ۱۱۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم ... ۱۱۱

الحمد لله ۱۱۷

رب العالمین ۱۱۸

الرحمن الرحیم ۱۲۰

مالک يوم الدين ۱۲۲

ایک نعت و ایک نستعین ۱۲۴

اهدنا الصراط المستقیم ... ۱۲۸

صراط مستقیم کونسا راستہ ہے ۱۲۹

صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ۱۳۵

گمراہ اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہیں؟ ۱۳۵

پانچواں باب

سورئہ توحید ۱۴۱

سورئہ توحید کی فضیلت ... ۱۴۱

قل ہو اللہ احد ۱۴۲

اللہ الصمد ۱۴۵

لم یلد و لم یولد ۱۴۶

و لم یکن له کفو احد ۱۴۷

چھٹا باب

رکوع اور سجدے ۱۵۱

رکوع ۱۵۳

رکوع کے اثرات ۱۵۴

آداب رکوع ۱۵۵

اولیائے خدا کا رکوع ۱۵۵

سجدے ۱۵۶

سجدہ کی تاریخ ۱۵۶

سجدہ کی اہمیت ۱۵۷

سجدہ کی حکمتیں ۱۶۰

آداب سجدہ ۱۶۱

خاک کر بلا ۱۶۱

سجدہ شکر ۱۵۵

سجدہ شکر کی برکتیں ۱۶۴

اولیائے خدا کے سجدے ۱۶۴

چند نکتے ۱۶۵

ساتواں باب

ذکر تسبیح ۱۶۹

سبحان اللہ ۱۶۹

تسبیح کا مرتبہ ۱۶۹

تسبیح کا ثواب ۱۷۲

عملی تسبیح ۱۷۲

تسبیح کی تکرار ۱۷۳

ہمارے اسلاف کے تمدن میں خداوند عالم کا ذکر ۱۷۳

موجودات کی تسبیح ۱۷۴

آٹھواں باب

قنوت ۱۸۱

مختلف نمازوں کے قنوت ۱۸۲

معصومین کے قنوت ۱۸۳

نواں باب

تشہد و سلام ۱۸۵

تشہد ۱۸۷

توحید کا نعرہ ۱۸۷

حقیقی توحید ۱۹۰

رسالت کی گواہی ۱۹۰

صلوات ۱۹۲

صلوات کا طریقہ ۱۹۴

سلام ۱۹۵

نام کتاب : نماز کی تفسیر
مؤلف : حجة الاسلام و المسلمین محسن قرانتی
مترجم: سید محمد یامین نقوی
تصحیح: سید نجم الحسن نقوی
نظر ثانی: سیدکمیل اصغر زیدی
پیشکش: معاونت فرہنگی، ادارہ ترجمہ
ناشر: انتشارات مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام
طبع اول : ۱۴۲۷ھ، ۲۰۰۶ء
تعداد : ۳۰۰۰
مطبع : اعتماد
ISBN: 964-529-098-8
www.ahl-ul-bayt.org
info@ahl-ul-bayt.org

بسم الله الرحمن الرحيم

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گرانبہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کردنی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری

رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جہانی اہلبیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خون خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہلبیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علامہ آقای محسن قرآنی کی گرانقدر کتاب تفسیر نماز کو فاضل جلیل مولانا سید محمد یامین نقوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

پیش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين -
ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ نئے ہجری شمسی سال یعنی ۱۳۷۴ھ ش (بمطابق ۲۱ مارچ ۱۹۹۶ء) کے آغاز میں ہم حضرت امام رضا - کے روضہ اقدس کے جوار میں موجود ہیں اور اس کتاب کو جسکا الجمالی خاکہ پہلے سے تیار کر چکے تھے اب سال نو کی تحویل کے بعد لکھنا شروع کیا ہے۔

انقلاب اسلامی کے بعد مدرسوں، یونیورسٹیوں، فوجی مراکز اور دوسری عمومی جگہوں پر نماز قائم کرنے کے سلسلہ میں جو کوششیں عمل میں آئیں، ان کے ساتھ میں نے بھی "اسرار نماز کی ایک جھلک"، "نماز کے ہمراہ" اور "نماز کے سلسلہ میں ایک سو چودہ نکتے" جیسی کتابیں لکھنے کے بعد یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اذکار نماز، تکبیر، حمد و سورہ، رکوع و سجود، تشہد اور سلام کی تفسیر لکھوں گاتاکہ جو بھی ہم اس سلسلہ میں خدا سے کہتے ہیں اسے اچھی طرح سمجھیں اور معرفت و آگاہی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔

اصل بحث کو شروع کرنے سے پہلے "عبادت و عبودیت" پر ایک سرسری نظر ڈالتے چلیں جو نماز اور تمام واجب عبادتوں کی روح ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کے بلند مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

نماز کی تفسیر

پہلا باب

عبادت و عبودیت

عبادت کیا ہے ؟

ہماری تخلیق کا اصل مقصد عبادت ہے " و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون" (۱) ہم لوگ جو بھی کام انجام دیتے ہیں اگر رضائے پروردگار کی خاطر ہو تو وہ عبادت ہے چاہے وہ کام علم حاصل کرنا ، شادی کرنا یا لوگوں کی خدمت کرنا ہو اور یا اپنی یا معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر ہو ۔ جو چیز کسی کام کو عبادت بناتی ہے وہ انسان کی مقدس نیت ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں " صیغۃ اللہ " (۲) کہتے ہیں یعنی جس میں خدائی رنگ و بو پائی جائے ۔

فطرت و عبادت

ہمارے کچھ کام عادت کی بنا پر ہوتے ہیں اور بعض کام فطرت کی بنا پر انجام پاتے ہیں۔ جو کام عادت کی بنا پر ہوتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کسی اہمیت کے حامل ہوں جیسے ورزش کی عادت اور ممکن ہے وہ کسی اہمیت کے حامل نہ ہوں ، جیسے سگریٹ پینے کی عادت، لیکن اگر کوئی کام فطری ہو یعنی فطرت اور اس پاک سرشت کی بنا پر ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کے اندر ودیعت کی ہے تو ایسا ہر کام اہمیت کا حامل ہوتا ہے ۔ عادت پر فطرت کی فوقیت یہ ہے کہ فطرت میں زمان ، مکان ، جنسیت ، نسل اور سن و سال مؤثر نہیں ہوتے ۔ ہر انسان اس جہت سے کہ انسان ہے فطرت رکھتا ہے جیسے اولاد سے محبت، کسی خاص نسل یا زمانے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر انسان اپنے بچے

۱۔ ذاریات آیہ ۵۶۔

۲۔ بقرہ آیہ ۱۳۸۔

کو چاہتا ہے (۱) لیکن لباس اور غذا جیسی چیزیں عادات میں شامل ہیں جن میں زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے ۔ بعض جگہوں پر کچھ رسم و رواج موجود ہیں لیکن دوسری جگہ پر وہی رسم و رواج نہیں پائے جاتے ہیں۔ عبادت و پرستش بھی ایک فطری امر ہے اسی لئے جتنی بھی قدیم ، خوبصورت اور مضبوط عمارتیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ عبادت گا ہیں ، مسجدیا مندر اور چرچ وغیرہ ہیں یا پھر آتش کدے ہیں ۔ یہ اور بات ہے کہ عبادت و پرستش کے انواع و اقسام میں کافی فرق پایا جاتا ہے ۔ ایک طرف تو خود معبود میں فرق ؛ یعنی پتھر ، لکڑی اور بت کی عبادت سے لے کر خدائے وحدہ لاشریک کی عبادت تک۔ اسی طرح عبادت کے طریقوں میں فرق ہے جیسے ناچنے ، مٹکنے سے لے کر اولیاء اللہ کی انتہائی عمیق و لطیف مناجات تک فرق پایا جاتا ہے ۔ انبیاء کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے اندر خدا کی عبادت و پرستش کی روح پھونکیں بلکہ انکا اصل مقصد معبود سے

متعلق تصور اور عبادت کے طریقے کو صحیح کرنا تھا ۔
مساجد ، گرجا گھروں اور مندر وغیرہ کی عمارتوں میں اتنا زیادہ پیسہ لگانا ، اپنے وطن کے پرچم کو مقدس سمجھنا ، اپنی قوم کے بزرگوں اور بڑی شخصیتوں کی قدر کرنا ، لوگوں کے کمالات و فضائل کی تعریف کرنا حتیٰ اچھی چیزوں سے رغبت ہو نایہ سب انسان کے وجود میں روح عبادت کے جلوے ہیں ۔
جو لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں وہ بھی مال و اقتدار یا بیوی ، بچوں،سندا ور ڈگری یا

.....

۱۔ سوال: اگر بچے سے محبت کرنا فطری چیز ہے تو پھر کیوں بعض زمانوں ، جیسے دورجاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ؟ جواب : فطری مسائل کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے اولاد سے محبت فطری ہے اسی طرح حفظ آبرو بھی فطری ہے ۔ عرب کے جاہل لڑکی، کو ذلت کاباعث سمجھتے تھے چونکہ جنگوں میں عورتیں اسیر ہوتی تھیں اور ان سے کوئی اقتصادی فائدہ نہیں ہوتا تھا، لہذا آبرو کے تحفظ کے لئے اپنی لڑکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے ۔ دور جانے کی بات نہیں ہے مال اور جان دونوں سے محبت کرنا فطرت ہے لیکن کچھ لوگ مال کو جان پر اور کچھ لوگ جان کو مال پر قربان کر دیتے ہیں لہذا لڑکی کو آبرو پر قربان کرنا اولاد سے محبت کی فطرت کے منافی نہیں ہے۔

فکر و قانون اور اپنے مکتب فکر یا اپنی راہ و روش کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اس راہ میں اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ دل دے بیٹھتے ہیں اور جانفشانی پر تیار رہتے ہیں ۔ اپنی پوری ہستی کو اپنے معبود پر فدا کر دیتے ہیں ۔ خدا کی عبادت انسان کی فطرت کی گہرا ٹیوں میں شامل ہے ، چاہے انسان اس سے غافل ہی ہو جیسے مولاناروم کہتے ہیں :

ہمچو میل کو دکان با مادران
سَرَّ میل خودندان درلبان

" انسان اپنی فطرت کی طرف اس طرح رغبت رکھتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے ، جبکہ اس کا راز وہ نہیں جانتا۔"
خدائے حکیم نے جس رغبت اور چاہت کو پیکر انسان میں قرار دیا ہے اس کی تکمیل و تشفی کے اسباب و وسائل بھی فراہم کئے ہیں ۔ اگر انسان کو پیاس لگے تو اس کے لئے پانی پیدا کیا ، اگر انسان کو بھوک لگے تو غذا بھی موجود ہے ۔ اگر خداوند عالم نے انسان میں جنسی خواہش کو رکھا تو اس کے لئے شریک حیات کو بھی خلق کیا،اگر خدا نے قوت شامہ دی تو اس کے لئے اچھی خوشبوئیں بھی پیدا کیں ۔
انسان کے متعدد جذبات میں سے ایک گہرا جذبہ یہ ہے کہ وہ لامتناہی چیز سے رغبت رکھتا ہے ، کمال سے عشق کرتا ہے اور بقاء کو دوست رکھتا ہے ۔ اور ان فطری رجحانات کی تکمیل ، خداوند متعال سے رابطہ اور اس کی پرستش کے ذریعہ ہوتی ہے ،نماز و عبادت ؛ کمال کے سرچشمہ انسان کا ارتباط ، محبوب واقعی سے اُنس اور اس کی قدرت لا متناہی میں احساس امنیت کرنا ہے ۔

عبادت کی بنیاد

ایسا کون ہے جو خدا کے لا محدود اور نامتناہی اوصاف و کمالات کو پہچان لے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے اور خاضع نہ ہو ؟ قرآن مجید واقعات و تاریخ کے ذریعے پروردگار عالم کی قدرت و عظمت کی نشانیوں کو ہمارے لئے بیان کرتا ہے ۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے کنواری جناب مریم کو بیٹا عنایت کیا۔ دریائے نیل میں جناب موسیٰ - کے لئے راستہ بنایا اور فرعون کو اسی میں غرق کر دیا ۔ اپنے نبیوں کو خالی ہاتھ دنیا کی بڑی طاقتوں پر کامیاب کیا اور ظالموں کی ناک مٹی میں رگڑ دی۔

وہ خدا جس نے بے جان مٹی سے تم کو پیدا کیا موت و زندگی ، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے ۔ کون ہے جو اپنے ضعف و ناتوانی، اپنے جہل، اپنی بے چارگی اور اپنے کو متوقع یا غیر متوقع حوادث و خطرات میں دیکھے لیکن نجات دینے والی قدرت کی ضرورت کا احساس نہ کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے ؟!
قرآن کریم جگہ جگہ پر انسان کے ضعف و ناتوانی کا ذکر کرتا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : تم پیدائش کے وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے کسی چیز سے آگاہ نہ تھے تم سراپا فقر تھے اور طاقت حاصل ہونے کے بعد پھر اسی ضعف و ناتوانی کی

طرف جاؤ گے ۔
 تم کو ہر وقت مختلف قسم کے خطرے دھمکی دیتے ہیں ۔ اگر زمین کی حرکت کم ہو جائے رات و دن اپنی جگہ پر رک جائیں تو کون ہے جو ان کی حرکت کو بڑھا دے اور تغیر پیدا کرے؟! اگر سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لئے چشمہ کا پانی کون بہا کر لائے گا ؟ (۱)
 اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے تو پھر تم ہمارا شکر یہ کیوں نہیں ادا کرتے ؟ (۲)
 اگر ہم چاہیں تو درختوں کو ہمیشہ کے لئے خشک کر دیں ۔ (۳)
 اگر ہم چاہیں تو زمین ہمیشہ لرزہ برانداز و متزلزل رہے ۔ (۴)

۱۔ ملک آیہ ۳۰۔

۲۔ واقعہ آیہ ۷۰۔

۳۔ واقعہ آیہ ۶۵۔

۴۔ سبأ آیہ ۹۔

یہ اور اس کے علاوہ دسیوں نمونے قرآن بیان فرماتا ہے تاکہ انسان کو غفلت سے بیدار کرے ، اس کے تکبر کو توڑ دے اور پیدا کرنے والے کے سامنے عبادت و تذلل پر آمادہ کرے ۔

عبادت کی گہرائی

عبادت ایک ایسا عمل ہے جسکو ظاہراً خضوع کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ عمیق ہے ۔ عبادت کا مرکز ہماری روح ہے ، عبادت کا سر چشمہ معرفت ہے ، عبادت کی بنیاد توجہ ہے ، عبادت کی شروعات تقدس سے ہوتی ہے ، آغاز عبادت تعریف و ستائش سے ہے ، عبادت دعا ہے ، عبادت میں التجا و استعانت ہے ، عبادت معبود کے کمالات سے عشق کا نام ہے ۔

عبادت ظاہراً ایک آسان کام ہے لیکن عبادت میں اگر مذکورہ بالا چیزیں نہ ہوں تو انسان سے عبادت نہیں ہو سکتی ۔ عبادت یعنی مادیت سے رغبت کو ختم کر لینا اور اپنی روح کو پرواز عطا کرنا۔ قدموں کو دیکھنے اور سننے والی اشیاء سے آگے رکھنا ۔ عبادت انسان کے عشق کی تکمیل کرتی ہے ، جس میں کبھی حمد و تعریف کے ذریعہ ، کبھی تسبیح و تقدیس کے ذریعہ اور کبھی اپنے قیمتی اوقات میں شکر و اظہار تسلیم کے ساتھ ، پروردگار عالم کے تئیں اپنے ادب و احترام کا اظہار مقصود ہوتا ہے ۔

عبادت سے بے توجہی

حضرت علی ۔ ارشاد فرماتے ہیں : اے انسان ! تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر تم اپنی عمر کے اتنے سال گزارنے کے بعد بھی (جبکہ تمہارے پاس اتنی استعداد ، قابلیت ، وسائل ، عقل ، علم اور وحی احکام الہی موجود ہیں) حیوانوں کی طرح چراگاہ عالم میں کھاؤ پیو اور سو جاؤ ۔ (۱)

۱۔ قَرَّتْ اِذَا عَيْنُهُ اِذَا قَتَدَتْ بَعْدَ السَّنِينَ الْمَتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِيمَةِ الْهَامِلَةِ وَالسَّانِمَةِ الْمَرَعِيَّةِ (نہج البلاغہ مکتوب ۵۵)

جی ہاں ! تمدن ، ٹیکنالوجی ، جدید آلات اور پیشرفت نے زندگی کو سکون بخشا اور یہ رفاہ و آسائش کا تحفہ لائیں لیکن کیا انسان کا کمال دنیا کی راحت بخش چیزوں کے حاصل کرنے میں ہے ؟

اگر ایسا ہی ہے تو پھر جانور ، کھانے پینے ، پوشاک ، گھرا ور جنسی تسکین میں انسان سے بھی آگے ہیں ۔ جانور انسانوں سے زیادہ اچھا اور بغیر زحمت کے کھاتے ہیں ۔ ان کو کھانا پکانے اور تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ انہیں کیڑے سلنے ، دھلنے اور استری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ جانور کسی محنت و مشقت کے بغیر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں ۔

کتنے پرندے اور کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جن کے اندر گھر اور گھونسلے بنانے کی مہارت کو دیکھ کر انسان تعجب میں

پڑ جاتا ہے۔ اصولاً کیا یہ ٹیکنالوجی کا ارتقاء انسانیت کی ترقی کا سبب بنا ہے؟ کیا انفرادی و معاشرتی برائیاں کم ہو گئی ہیں؟ کیا یہ آسائش، دل کو سکون بخشتی ہے؟

بہر حال اگر انسان کے ہاتھ کو معصوم اور عادل رہبر کے ہاتھ میں نہ دیا جائے تو انسانیت پر ظلم ہوگا اگر انسان کا دل پروردگار سے وابستہ نہ ہو تو انسانیت کے مقام و منزلت کی توہین ہوگی۔

رضائے الہی محور عبادت ہے جس طرح سے آسمانی کرات اور کرہ ارضی مختلف (وضعی و انتقالی) حرکات کے باوجود ہمیشہ ایک ثابت مدار رکھتے ہیں اسی طرح عبادت بھی ہے اپنی مختلف شکلوں کے باوجود ایک ثابت مدار رکھتی ہے اور وہ رضائے الہی ہے۔ اگرچہ زمان و مکان اور انفرادی و اجتماعی شرائط اس مدار میں انجام پانے والی حرکتوں کو معین کرتے ہیں۔ جیسے سفر میں چار رکعتی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے اور بیماری میں نماز پڑھنے کی شکل بدل جاتی ہے لیکن دو رکعتی یا قصر نماز، نماز ہے یہ بھی یاد خدا اور رضائے پروردگار کو انجام دینے کے لئے ہوتی ہے۔ "واقم الصلاة لذكری" (۱)

عبادت کا جذبہ عبادت کی روح غذا ہے۔ سب سے اچھی غذا وہی ہوتی ہے جو بدن میں جذب ہو جائے (یعنی بدن کے لئے سود مند ثابت ہو) نیز بہترین عبادت وہ ہے جو روح میں جذب ہو جائے یعنی خوشی اور حضور قلب کے ساتھ انجام پائے۔ زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے بلکہ سود مند غذا کھانا ضروری ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ جابر بن عبد اللہ انصاری سے ارشاد فرماتے ہیں:

"انّ هذا الدين لمثين فاولع فيه برفق و لا تبغض الی نفسک عبادة الله"۔ (۲)

خدا کا دین مستحکم و استوار ہے اس کی نسبت نرم رویہ اختیار کرو۔ (لہذا جس وقت روحی اعتبار سے آمادہ نہ ہو اس وقت عبادت کو اپنے اوپر بوجھ نہ بناؤ) کہ تمہارا نفس اللہ کی عبادت سے نفرت کرنے لگے۔

رسول اکرم ﷺ کی دوسری حدیث میں ہے:

"طوبی لمن عشق العبادة و عانقها" (۳)

وہ شخص خوشحال ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے اور اپنے محبوب کی طرح عبادت کو گلے لگاتا ہے۔

- ۱۔ طہ آیہ ۱۴۔
- ۲۔ بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ ۲۱۲۔
- ۳۔ بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ ۲۱۲۔

نماز کی تفسیر

عبادت میں اعتدال عبادت و پرستش اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب انسان اس کے بجا لانے میں اعتدال سے کام لے، لہذا حدیث کی کتابوں میں بعض روایات "باب الاقتصاد فی العبادة" (عبادت میں میانہ روی کا باب) کے نام سے نقل ہوئی ہیں۔ (۱)

انسان اس وقت سالم ہے کہ جب اس کے تمام اعضاء و جوارح متناسب ہوں، اگر حد معمول سے اعضاء چھوٹے یا بڑے ہوں تو وہ ناقص الخلقہ کے زمرہ میں آئے گا۔ اسی طرح انسان عبادت اور معنوی کاموں میں بھی نظم و ضبط پیدا کرے۔ رسول اکرم ﷺ سے لوگوں نے بتایا کہ آپ ﷺ کی امت میں سے کچھ لوگ عبادت کی خاطر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں آگئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ میری راہ و روش نہیں ہے ہم خود اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور گھر میں رہتے ہیں جو شخص بھی ہمارے راستہ سے ہٹ کر عمل کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (۲)

امام جعفر صادق - ایک مسلمان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا پڑوسی عیسائی تھا یہ عیسائی مسلمان ہو گیا اس مسلمان نے اس تازہ مسلمان کو صبح، سحر کے وقت جگایا اور اس کو مسجد لایا۔ اس سے کہا کہ نماز شب پڑھو اس نے نماز شب پڑھی اس کے بعد صبح ہو گئی جب صبح ہو گئی تو کہا کہ نماز صبح پڑھو۔ اس کے بعد سورج نکلنے تک دعائیں پڑھیں اور سورج نکلنے کے بعد نماز ظہر تک قرآن پڑھا اسی طرح اس مسلمان نے اس بے چارے تازہ مسلمان کو ۲۴ گھنٹے تک مسجد میں پہنساتے رکھا۔ اب نماز پڑھو، اب دعا پڑھو، اب قرآن پڑھو۔ یہ عیسائی جب گھر واپس گیا تو اسلام سے منحرف ہو گیا

.....
 ۱۔ کافی ج ۲ ص ۸۶۔ ۲۔ کافی جلد ۵ صفحہ ۴۹۶۔

اور اس کے بعد دوبارہ مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ (۱)
 جی ہاں! عبادت میں اس طرح کی افراط و تفریط لوگوں کو عبادت سے دور کر دیتی ہے۔
 شہید مطہری نقل کرتے ہیں کہ: عمرو عاص کے دو بیٹے تھے ایک حضرت علی - کا چاہنے والا تھا اور ایک معاویہ کا طرفدار ہو گیا۔ ایک روز رسول اکرم ﷺ نے عمرو عاص کے نیک بیٹے (عبداللہ) سے فرمایا: ہم نے سنا ہے کہ تم راتیں عبادت میں گزارتے ہو اور دنوں کو روزہ رکھتے ہو، اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ! رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہم کو یہ روش قبول نہیں۔ (۲)
 دوسری روایت میں آیا ہے:
 " اِنَّ لِّلْقُلُوْبِ اِقْبَالَآ وَاَدْبَارًا " (۳)
 انسان کی روح لگاؤ اور فرار دونوں رکھتی ہے۔ جس وقت روح متوجہ اور متمایل ہو اس وقت اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جس وقت آمادہ نہ ہو اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالو۔ اس سے خود بخود بر عکس عمل وجود میں آتا ہے۔
 اسلام نے تاکید کی ہے کہ اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کرو ان چار حصوں میں سے ایک حصہ کو تفریح و لذت میں گزارو۔ اگر اس طریقہ پر عمل کرو گے تو دوسرے کاموں کے لئے نشاط حاصل ہوگا۔ (۴)
 وہ یہودی جو چھٹی اور آرام کے دن مچھلی کے شکار کے لئے جاتے تھے قرآن مجید نے ان کو زیادتی کرنے والوں میں سے یاد کیا ہے۔

.....
 ۱۔ سیری در سیرہ نبوی ﷺ صفحہ ۲۱۳۔
 ۲۔ طہارت روح صفحہ ۱۲۲۔
 ۳۔ بحار الانوار جلد ۷۸ صفحہ ۳۵۷، کافی ج ۲ ص ۸۶۔
 ۴۔ بحار الانوار جلد ۱۴ صفحہ ۴۱۔

(و لقد علمنا الذین اعتدوا منکم ف السبب) (۱)
 تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتہ کے معاملہ میں زیادتی سے کام لیا تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائیں۔
 بہر حال عبادت میں نشاط و آمادگی ایک اصل ہے جو اعتدال و میانہ روی کی رعایت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

عبادت میں انتظامی صلاحیت
 صرف معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں ہی انتظامی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ عبادت کے تمام کاموں میں بھی اس کی ضرورت ہے۔
 انتظامی صلاحیت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہیں، منصوبہ بندی، طریقہ کار، تجربہ کار افراد کا انتخاب، نظم و ضبط، نظارت، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور تمام چیزوں پر کنٹرول رکھنا وغیرہ۔ عبادت میں بھی انہیں اصولوں کی رعایت کی جائے تاکہ رشد و کمال کا باعث بنے۔
 نماز ایک معین منصوبے کے ماتحت ہے جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے اس کی رکعتوں اور رکوع و سجد کی تعداد بھی مشخص ہے، نماز کے اوقات مخصوص ہیں اور اس کی سمت، قبلہ کی طرف ہے۔

صرف یہ منصوبہ اور خاکہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے پڑھنے اور انجام دینے کے لئے امام جماعت کا انتخاب بھی ضروری ہے جو ہر طریقہ سے کامل ہو اور معاشرے کو پہچانتا ہو۔ امام جماعت، آداب، اخلاق، پاکیزگی، نماز میں نشاط اور مسجد میں آنے کے لئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے اور

.....
۱۔ سورہ بقرہ ۶۵۔

انہیں اس کی ترغیب دلائے۔ جماعت کی صفوں میں نظم و نسق اور امام جماعت کی اقتداء کی رعایت ہونی چاہئے۔ بہر حال ایک کامل انتظامی صلاحیت کی ضرورت ہے تاکہ نماز بہترین طریقے سے انجام پائے۔

عبادت؛ شب و روز کا دواخانہ ہے
 ہر شخص ہر وقت ہر حالت میں پہلے سے وقت لئے بغیر اور بلا واسطہ پروردگار عالم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اگرچہ مخصوص اوقات میں جیسے سحر کے وقت، جمعہ کے روز، سورج ڈوبتے وقت، نماز جمعہ کے خطبے ختم ہونے کے بعد، بارش کے وقت یا شب قدر میں دعا مانگنے اور عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن دعا و مناجات کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔

عبادت ہر حال میں غفلت اور بھول چوک اور گناہوں کی دوا ہے

(اقم الصلاة لذكر) (۱)

اللہ کا ذکر اور عبادت دل کو آرام و اطمینان پہنچاتے ہیں اور ان سے دل کا اضطراب اور پریشانی ختم ہوجاتی ہے

(الا بذكر الله تطمئن القلوب) (۲)

عبادت سکون کا باعث ہے

آپ بڑے بڑے سرکش، سرمایہ داروں اور صاحبان علم و صنعت کو پہچانتے ہیں لیکن کیا ان سب کے یہاں قلبی سکون کا سراغ ملتا ہے ؟ !

.....
۱۔ طہ۔ آیہ ۱۴۔

۲۔ رعد آیہ ۲۸۔

کیا اہل مغرب کے پاس روحانی اور نفسیاتی سکون موجود ہے ؟

کیا قدرت و صنعت اور مال و ثروت آج کے انسان کو صلح و دوستی اور دلی اطمینان و سکون عطا کرسکے ہیں ؟ لیکن خدا کی عبادت و اطاعت سے خدا کے اولیاء کو ایسی کیفیت و حالت حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ لوگ مضطرب اور پریشان نہیں ہوتے۔ یہاں پر مناسب ہے کہ انقلاب اسلامی کے عظیم الشان قائد امام خمینی کے دو واقعے نقل کردیں :
 شاہ ایران کے بھاگنے کے بعد اگرچہ شاہ کا بے اختیار نوکر شاہ پور بختیار حکومت کر رہا تھا، پھر بھی امام خمینی نے یہ فیصلہ کیا کہ ۱۵ سال کی جلا وطنی کے بعد اپنے ملک (ایران) واپس جائیں۔ نامہ نگاروں نے آپ سے ہوائی جہاز میں سوال کیا : آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں ؟ امام خمینی نے جواب دیا کچھ بھی نہیں (یعنی آپ کو ہر اعتبار سے اطمینان تھا) جبکہ اس وقت ان کے لاکھوں ایرانی عاشقان کی جان کو درپیش خطرہ کی وجہ سے پریشان تھے مگر امام خمینی بہت اطمینان کے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر عبادت و دعا میں مشغول تھے۔ یہ اطمینان قلب صرف خدا کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا واقعہ جس کو امام خمینی کے صاحبزادے جناب الحاج سید احمد خمینی سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جس روز شاہ، ایران سے بھاگا اس روز پیرس میں دسیوننا مہ نگار اور فوٹو گرافر، ان کی قیام گاہ پر آئے تاکہ اس مسئلہ میں امام کی بات کو دنیا میں پھیلانیں۔ امام خمینی نے کرسی پر بیٹھ کر چند کلمے کہے پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ : کیا نماز ظہر کا وقت ہوگیا ہے ؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ امام خمینی نے فوراً اپنی بات منقطع کی اور اول وقت نماز کے لئے کرسی سے اتر آئے۔ سارے لوگ پریشان ہوگئے کہ کیا بات ہوگئی۔ ہم نے کہا کہ امام خمینی نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں۔ جو کچھ بھی امام خمینی نے پیرس میں انجام دیا وہ ایک درس تھا جو انہوں نے اپنے امام حضرت علی رضا۔ سے سیکھا

تھا۔ تاریخ میں ہے کہ صابئین (ستارہ پرست) جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ان کا ایک عالم بہت مغرور و متعصب تھا۔ جب بھی وہ امام رضا سے بات چیت کرتا تھا تو کسی بات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ بحث میں امام نے اس کی فکر کا اس طرح سے قلع قمع کیا کہ اس نے کہا کہ اس وقت میرا دل کچھ نرم ہوا اور تمہاری دلیلوں کو قبول کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں اذان کی آواز آئی۔ امام نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے دوستوں نے کافی اصرار کیا کہ اگر تھوڑی دیر اس سے آپ اور بات چیت کر لیں تو وہ اور اس کے ساتھی سب مسلمان ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا اول وقت کی نماز اس صابئی کی بحث سے بہتر ہے۔ اگر وہ لیاقت رکھتا ہے تو نماز کے بعد بھی حق قبول کرسکتا ہے۔ اس صابئی عالم نے جب یہ ایمانی پختگی اور حق سے عشق دیکھا تو اور زیادہ آپ پر فریفتہ ہو گیا۔ (۱)

عبادت کا ما حاصل

عبادت؛ نصرت و الطاف الہی کے حصول کا ذریعہ ہے :

(واعید ربک حتی یاتیک الیقین) (۲)

اس قدر عبادت کرو کہ درجہ یقین پر فائز ہو جاؤ۔

حضرت موسیٰ - آسمانی کتاب توریت کو حاصل کرنے کے لئے چالیس رات دن کوہ طور پر مناجات میں مشغول رہے اور پیغمبر گرامی اسلام ﷺ کی کو حاصل کرنے کے لئے ایک طولانی مدت تک غار حرا میں عبادت کرتے رہے۔ روایتوں میں آیا ہے: "من اخلص العبادة لله اربعین صباحا ظہرت ینابیع الحکمة من قلبہ علی لسانہ" (۳)

۱۔ بحار الانوار جلد ۴۹ صفحہ ۱۷۵۔

۲۔ حجر آیہ ۹۹۔

۳۔ بحار الانوار جلد ۵۳ صفحہ ۳۲۶۔

جو شخص بھی چالیس رات دن اپنے تمام کاموں کو عبادت و خلوص کا رنگ دے تو پروردگار عالم حکمت کے چشمے اس کے دل اور زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ جی ہاں خلوص دل سے عبادت وہ یونیورسٹی ہے جو چالیس روز کے اندر تعلیم سے فارغ ہونے والوں کو ایسا حکیم بناتی ہے جو حکمت کو الہی سرچشمہ سے حاصل کر کے اسے دوسروں کی طرف منتقل کرتے رہتے ہیں۔

ایمان و عبادت کا ایک دوسرے میں اثر

جس طرح سے ایمان انسان کو عبادت کی طرف کھینچتا ہے عبادت بھی ایمان کو عمیق بنانے میں مؤثر ہے جیسا کہ درخت کی جڑبیتوں کو کھانا اور پانی پہنچاتی ہیں اور پتے جڑوں کی طرف گرمی اور نور منتقل کرتے ہیں۔ ہاں عبادت جتنی اچھی اور زیادہ ہوگی، معبود سے انسان کی محبت و انس بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

قرآن مجید میں عبادت کا فلسفہ

قرآن کی نظر میں نماز کا فلسفہ یاد خدا ہے

(اقم الصلاة لذكر) (۱)

اور خدا کا ذکر دلوں کے سکون کا باعث ہے

(الا بذكر الله تطمئن القلوب) (۲)

اور قلبی سکون کا نتیجہ عالم ملکوت میں پرواز ہے

۱۔ طہ ۱۴۔

۲۔ رعد ۲۸۔

(یا ایہنا النفس المطمئنة ارجع الی ربک) (۱)

دوسرے مقام پر قرآن نے عبادت کی وجہ شکر پروردگار قرار دیا ہے۔

(أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) (۲)

اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے ۔

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (۳)

پس اس گھر (خانہ کعبہ) کے پروردگار کی عبادت کریں کہ اس نے انہیں بھوک و پیاس سے نجات دی ۔

بعض آیتوں میں یہ اشارہ ہے کہ نماز تربیت کا کام کرتی ہے ۔

(اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (۴)

بیشک نماز برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے ۔

نماز پڑھنے والا مجبور ہے کہ نماز کے صحیح اور قبول ہونے کے لئے کچھ دینی احکام کی رعایت کرے ۔ یہی رعایت

سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ اور برائیوں سے دور رہے ۔ ظاہر ہے کہ جو سفید کپڑا پہنے ہوگا وہ فطری طور پر گندی اور

آلودہ جگہ پر نہیں بیٹھے گا ۔

قرآن مجید نماز کی تاکید کرنے کے بعد فرماتا ہے :

(اِن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (۵)

بیشک اچھے کام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں ۔

پس اس لحاظ سے نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے اور پروردگار عالم اس آیت کے ذریعہ گنہگاروں کو امید دلا

تا ہے کہ اگر اچھے کام ، جیسے نماز و عبادت بجا لاؤ گے تو خدا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا ۔

.....

۱۔ فجر ۲۸ ۔

۲۔ نساء ۱ ۔

۳۔ قریش ۲ ۔

۴۔ عنکبوت ۴۵ ۔

۵۔ بود ۱۱۴ ۔

نماز کی تفسیر

نماز ؛ امام علی - کی زبانی

حضرت علی - نے متعدد بار نہج البلاغہ میں نماز اور یاد خدا کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے جو کتاب " نماز در نہج

البلاغہ " میں موجود ہے ۔ کچھ جملے جو عبادت اور ذکر و یاد خدا کا فلسفہ بتاتے ہیں اور ان کا سب سے اہم مصداق نماز

ہے انہیں یہاں پر حضرت علی - سے نقل کرتے ہیں ۔ آپ فرماتے ہیں : " اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الذِّكْرَ جَلَاءً لِلْقُلُوْبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرِۃِ

و تبصر بہ بعد العشوة " (۱)

پروردگار نے اپنے ذکر اور اپنی یاد کو روحوں کا صیقل قرار دیا ہے (یعنی روح پر ذکر خدا کے ذریعہ صیقل ہوتی ہے)

تاکہ کم سننے والے کان سننے لگیں اور بند آنکھیں دیکھنے لگیں ۔

اس کے بعد آپ نماز کی برکتوں کے بارے میں فرماتے ہیں : " قد حفت بهم الملائكة و نزلت عليهم السكينة و فتحت لهم ابواب

السماء و اعدت لهم مقاعد الكرامات " عبادت کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے آسمان

کے دروازے ان کے لئے کھلتے ہیں اور ان کے لئے اچھی جگہ تیار کی جاتی ہے ۔

آپ ایک دوسرے خطبہ میں فرماتے ہیں : " و انها لتحت الذنوب حت الورق و

.....

۱۔ نہج البلاغہ خطبہ ۲۲۲۔

تطلقها اطلاق الرِّبِّق " (۱)

نماز گناہوں کو سوکھے پتوں کی طرح گرا دیتی ہے اور انسان کی گردن کو گناہ کی رسی سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ رسول اکرم ﷺ سے ایک حسین تشبیہ نقل کرتے ہیں کہ نماز ایک پانی کی نہر کی طرح ہے۔ انسان اس میں ہر روز پانچ مرتبہ اپنے کو پاک کرتا ہے، دھوتا ہے، کیا اس کے بعد بھی گندگی باقی رہے گی؟

نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۹۶ میں تکبر و سرکشی اور ظلم جیسے اخلاقی مفسد کا ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں: ان تمام برائیوں کی دوا نماز، روزہ اور زکات ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کے اثرات کا یوں ذکر کیا ہے: "تسکینا لاطرافہم تخشيعا لابصارہم، تذليلا لنفوسہم، تخفيضا لقلوبہم، ازالة للخيلاء عنہم ان اوحشتہم الوحشة انسہم ذکرک" نماز انسان کے پورے وجود کو سکون بخشتی ہے، آنکھوں کو خاشع و خاضع کرتی ہے، سرکش نفوس کو رام کرتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے، غرور و تکبر کو ختم کرتی ہے، وحشت و اضطراب اور تنہائی میں (اے خدا تیری یاد) انس و الفت کا سبب بنتی ہے۔

البتہ واضح ہے کہ سارے لوگ نماز کے ان فوائد سے استفادہ نہیں کر سکتے بلکہ ان تمام فوائد کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز اور یاد خدا کو دوست رکھتے ہیں اور ایسے عاشق ہیں کہ اس کو پوری دنیا کے عوض میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔

۱۔ نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۹۔

عبودیت و بندگی کے اثرات و برکات

۱۔ احساس سر بلندی اور افتخار

امام زین العابدین - اپنی مناجات میں فرماتے ہیں: "اللہ کفیٰ ب عزّا انّ اکون لک عبدا" (۱) پروردگارا! میری عزت و افتخار کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس سے بڑا کون سا افتخار ہوگا کہ انسان اپنے خالق سے کلام کرے اور خالق انسان کے کلام کو سنے اور قبول بھی کر لے۔

اس حقیر دنیا میں! اگر انسان کا مخاطب کوئی بڑا آدمی یا کوئی معروف دانشمند ہو تو انسان اس سے بات کرنے کے بعد غرور کا احساس کرتا ہے یا یہ کہ ہم کسی وقت فلاں کے شاگرد تھے اس سے اپنی بڑائی جتاتا ہے۔

۲۔ احساس قدرت

جس وقت بچے کا ہاتھ اپنے قوی اور مہربان باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ قدرت و طاقت کا احساس کرتا ہے لیکن اگر اکیلا ہو تو ہر وقت خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے اذیت پہنچائے۔ جس وقت انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے، دنیا کی طاقتوں، طاغوتوں اور متکبرین کے سامنے قدرت و طاقت کا احساس کرتا ہے۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۷۷ صفحہ ۴۰۲۔

عزت کے معنی : جس میں کسی کا اثر اور نفوذ نہ ہو۔ انبیاء کے مکتب میں تمام عزتوں کا مالک خدا ہی ہے کیونکہ تمام قدرتوں کا مالک وہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو غیر خدا کی تلاش میں ہیں قرآن حکیم ان پر تنقید کرتا ہے ! کیا غیر خدا سے عزت چاہتے ہو؟ (۱)

یہ طبیعی ہے کہ عزیز مطلق اور تمام قدرتوں سے بالاتر قدرت سے اتصال، انسان کو عزت بخشتا ہے۔ اسی وجہ سے " اللہ اکبر " جیسے کلمات، طاغوت کو انسان کے نزدیک حقیر و ذلیل اور انسان کو اس کے مقابلہ میں عزیز کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم ہم کو حکم دیتا ہے کہ سختی و مشکلات میں نماز و عبادت کے ذریعہ قدرت و قوت حاصل کرو۔ (و استعینوا بالصبر و الصلوة) (۲)

اولیائے خدا بھی حساس مواقع پر نماز کے ذریعہ اپنے کو تقویت دیتے تھے۔ نو محرم کو عصر کے وقت یزیدی لشکر نے امام حسین۔ کے خیام پر حملہ کیا تو امام نے فرمایا کہ ایک رات جنگ میں تاخیر کرو، ہم نماز کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی شب، صبح تک خدا کی عبادت میں بسر کریں۔ (۳)

خدا کے صالح بندے فقط نماز واجب کو ہی نہیں چاہتے بلکہ مستحب نمازوں سے بھی محبت رکھتے ہیں نوافل نماز، نماز سے عشق کی پہچان ہے۔ ممکن ہے انسان واجب نماز کو خدا کے ڈر سے

۱۔ نساء ۱۳۹۔

۲۔ بقرہ ۴۵۔

۳۔ مقتل الشمس صفحہ ۱۷۹۔

پڑھتا ہو لیکن مستحب نمازوں میں کوئی ڈرا ور خوف نہیں ہوتا بلکہ اس میں عشق خدا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے تو اس کا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہم کلام ہو، اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ پس یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہے لیکن اس سے بات کرنے کی تمنا نہ کرے۔

البتہ نوافل نماز سے بے دلی بلاوجہ نہیں ہے بلکہ روایتوں کے مطابق رات دن کے گناہ نماز شب اور نوافل صبح کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ (۱)

بہر حال جو شخص نوافل نہیں پڑھتا ہے وہ ایسی کوئی فضیلت نہیں رکھتا جس سے خداوند عالم کے فضل و کرم کی امید رکھے، چونکہ جو خود صالح ہوتا ہے وہ مصلح کا انتظار کرتا ہے۔

نوافل نمازیں واجب نمازوں کے نقائص کو پورا کرتی ہیں۔ (۲)

ایک شخص نے امام۔ سے سوال کیا کہ نماز میں ہمارا ذہن حاضر نہیں رہتا اور ہم نماز کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ہم کیا کریں؟ امام۔ نے فرمایا: واجب نماز کے بعد نوافل نماز بھی پڑھا کرو۔ نوافل، واجب نماز کے نقائص کو پورا کرتی ہیں اور یہ نماز کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔

نماز کے انہیں آثار و برکات کی وجہ سے اولیائے اللہ نہ صرف نماز واجب بلکہ مستحبی نمازوں پر بھی زیادہ توجہ رکھتے تھے اور جو چیز بھی اس کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے اور معنوی تکامل نیز روحی پرواز میں مانع ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرتے تھے، جیسے زیادہ کھانا، زیادہ بات کرنا، زیادہ سونا، لقمہ حرام کھانا، لہو و لعب میں مصروف ہونا یا جو چیز بھی انسان کو عبادت کے لطف سے رو کے اور نماز کو اس کے اوپر بوجھ بنائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے:

۱۔ بحار الانوار جلد ۸۳ صفحہ ۱۷۹۔

۲۔ تفسیر الطیب البیان جلد ۱ صفحہ ۱۶۱۔

(و ائہا لکبیرۃ لا علی الخاشعین) (۱)

بیشک نماز سنگین ہے لیکن خدا کے سامنے خشوع کرنے والوں پر نہیں۔

۴۔ تربیت کا سبب

اگرچہ نماز ایک روحی اور معنوی ربط ہے اور اس کا مقصد خدا کو یاد کرنا ہے لیکن اسلام چاہتا ہے کہ اس روح کو تربیتی نظام کے سانچے میں ڈھال دے، اسی لئے نماز کے لئے کافی شرائط رکھے گئے ہیں یعنی نماز کے صحیح ہونے کے شرائط، اس کے قبول ہونے کی شرطیں اس کے کمال کے شرائط، جیسے جسم و لباس کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا، کلمات کا صحیح تلفظ کرنا، نمازی کی جگہ اور لباس کا مباح ہونا۔ یہ سب نماز کے صحیح ہونے کے شرائط ہیں ان کا تعلق نمازی کے جسم سے ہے نہ کہ اس کی روح سے۔

اسلام نے عبادت کو ایسے لباس میں ضروری قرار دیا تاکہ مسلمانوں کو صفائی و نچافت، استقلال اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کا درس دے جس طرح توجہ، حضور قلب، معصوم اماموں کی رببری کو قبول کرنا، مالی واجبات کی ادائیگی جیسے خمس و زکات، یہ نماز کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں۔ نماز کا اول وقت ادا کرنا، مسجد میں اور جماعت سے پڑھنا، صاف ستھرے اور عطر لگے ہوئے کپڑے پہننا، دانتوں کو صاف کر کے نماز پڑھنا، صفوں کی ترتیب کی رعایت کرنا اور اس جیسی بہت سی چیزوں کی رعایت کرنا یہ کمال نماز کے شرائط ہیں۔ ان شرائط میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک شرط انسانوں کی تربیت میں بہتر بن کر دار کی حامل ہے۔

ہم نماز میں جس طرف بھی رخ کر لیں اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں قرآن مجید کہتا ہے:

۱۔ بقرہ ۴۵۔

(فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ) (۱)

لیکن قبلہ کو اس لئے معین کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلامی سماج کا ایک جہت رکھنا ضروری ہے اور اس سے وحدت و بھائی چارگی کا درس ملتا ہے۔ لہذا حکم دیا گیا کہ سب لوگ ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک سمت جس کا حکم ہوا کیوں وہ صرف کعبہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ وہ پہلا مرکز ہے جو عبادت کے لئے بنایا گیا ہے

(اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا) (۲)

دوسری طرف پوری تاریخ میں اس کے بنانے اور تعمیر کرنے والے انبیاء رہے ہیں لہذا کعبہ کی طرف رخ کرنا تاریخی طور پر دین سے ایک طرح کا رشتہ جوڑتا ہے۔ دوسری طرف کعبہ استقلال کا راز ہے اس لئے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے اوپر احسان جتاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو پس تم لوگ استقلال نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کافی واضح الفاظ میں فرماتا ہے :

(لَنَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) (۳)

ہم نے کعبہ کو تمہارا قبلہ قرار دیا ہے تاکہ لوگ تم پر حجت نہ رکھیں۔ خلاصہ یہ کہ قبلہ استقلال، وحدت و ہمدلی کا راز ہے۔ یہ نماز کے تربیتی درس ہیں۔

۵۔ ارواح کا احضار

آج کل دنیا میں "Hypnotism" اور احضار روح کے بازار نے رونق حاصل کر رکھی

۱۔ بقرہ ۱۱۵۔

۲۔ آل عمران ۹۶۔

۳۔ بقرہ ۱۵۰۔

ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بحث ہمارا مقصد نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ سے اپنی بھاگی ہوئی روح کو خالق کے سامنے پیش کر کے اور اس کلاس کے فراری کو درس میں حاضر کریں۔

نماز کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ نماز سرکش و فراری روح کو خدائے تعالیٰ کے حضور حاضر کرتی ہے۔ امام زین العابدین - مناجات الشاکین میں پروردگار کی بارگاہ میں اپنے نفس کا یوں گلہ کر رہے ہیں :

" خدا وندا ! ہم اپنے نفس کا تجھ سے گلہ و شکوہ کرتے ہیں یہ نفس ہوئی و ہوس کی طرف رغبت رکھتا ہے اور حق سے

بھاگتا ہے۔" یہی نفس ہے جو گناہ کو انسان کے سامنے شیریں و آسان بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کی اس طرح توجیہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا، سبھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ نفس، بچے کے کھیل کی طرح ہے اگر اس کا باپ اس کی مخالفت نہ کرے بچہ اپنے ہاتھ کو باپ کے ہاتھ سے چھڑا کر جدھر دل چاہے چلا جاتا ہے اور ہر گھڑی اس کے لئے خطرہ رہتا ہے۔ اس نفس کے کنٹرول کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان چند بار اس کو خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر کرے اور غفلت کا خاتمہ کرے تاکہ مادیات کے سمندر میں اسے غرق ہونے سے نجات دلا سکے۔

نماز کی تفسیر

عالم ہستی پر اختیار

نماز کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ، قدم با قدم عالم ہستی پر تسلط پیدا کر لیتا ہے۔ پہلا قدم: قرآن فرماتا ہے کہ تقویٰ انسان کو نورانیت و بصیرت دیتا ہے یعنی انسان کو ایسی روشنی عطا کرتا ہے کہ وہ حق و باطل کو پہچان سکے (ان تقوا الله يجعل لکم فرقانا) (۱)

۱۔ انفال ۲۹۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے (يجعل لکم نورا) (۱) پس تقویٰ جس میں سب سے اہم چیز خدا کی بندگی و نماز ہے یہ نورانیت و بصیرت کے حصول کی طرف ایک قدم ہے۔ دوسرا قدم: جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا اور حق کے محور پر آگئے ہیں پروردگار ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے (والذین اهدوا زادهم هدی) (۲) ان کی ہدایت رکتی نہیں ہے بلکہ وہ تسلیم و بندگی کی وجہ سے ہمیشہ تقرب اور ترقی کی منزلوں میں ہیں اور ان کے وجود کی شعاعیں اور تیز ہوجاتی ہیں۔ تیسرا قدم: یہ لوگ چونکہ خدا کے راستے میں زحمت و مشقت برداشت کرتے ہیں پروردگار ان لوگوں کے لئے کمال تک پہنچنے کے تمام راستے کھول دیتا ہے (و الذین جاهدوا فینا لنهدینہم سبیلنا) (۳) چوتھا قدم: جس وقت ان لوگوں کو شیطان چھونا بھی چاہتا ہے تو یہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور خدا سے طلب استغفار کرتے ہیں (اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا) (۴) پانچواں قدم: خود سازی کرنے اور فحشاء و منکرات سے دور رہنے کا بہترین عامل نماز ہے: (ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر) (۵)

ان اقدامات کے بعد انسان اپنے نفس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، نفس کو کنٹرول کرتا ہے، کسی وسوسہ اور لغزش کا شکار نہیں ہوتا بلکہ جب کبھی وسوسہ اور بیرونی طاغوت کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو نماز اور

۱۔ حدید ۲۸۔

۲۔ محمد ۲۷۔

۳۔ عنکبوت ۶۹۔

۴۔ اعراف ۲۰۱۔

۵۔ بقرہ ۴۵۔

صبر کے ذریعہ مدد حاصل کرتا ہے: (واستعینوا بالصبر و الصلوٰۃ) (۱) چھٹا قدم: تقویٰ رکھنے والے افراد جن کا وجود نور الہی سے روشن ہو جاتا ہے وہ ہر نماز میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اس لئے کہ نماز تکرار نہیں بلکہ معراج ہے۔ ایک سیڑھی کے سارے زینے ایک جیسے ہیں لیکن سیڑھی کا ہر زینہ انسان

کو اوپر کی طرف پہنچاتا ہے - جیسے کہ کوئی شخص کنواں کھودتا ہے کہ بظاہر وہ ایک کام کی تکرار کرتا ہے ، مستقل پہاؤڑا چلاتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں ہر پہاؤڑا مارنے کے بعد وہ مزید گہرائی کی طرف جاتا ہے۔ نماز کی رکعتیں ظاہراً تکراری چیز ہیں لیکن یہ کمال کی بلندیوں پر جانے کے ذریعے ہیں اور ایمان و معرفت کی گہرائی ہیں -

نماز پڑھنے والا ہرگز راضی نہیں ہوتا کہ اس کی عمر شیطان کی چراگاہ اور اس کی ٹھوکروں میں رہے۔ امام زین العابدین - دعائے " مکارم الاخلاق " میں خداوند عالم سے اس طرح سوال کرتے ہیں :
"خداوندا ! اگر ہماری عمر شیطان کی چراگاہ ہے تو اس کو ختم کر دے -"

صرف شیطان ہی نہیں کبھی کبھی وہم و خیال بھی انسان کی روح کو پامال کرتے ہیں اور انسان کو حق و حقیقت سے غافل کر دیتے ہیں -

جی ہاں ! رسول اکرم ﷺ وقت بھی بیدار رہتے تھے اور ہم لوگ بیداری ، حتیٰ نماز کی حالت میں بھی سوتے رہتے ہیں اور ہماری روح شیطان اور وہم و خیال کا کھلو نا بنی ہوئی ہے -

.....

۱۔ عنکبوت ۴۵۔

بقول مولانا روم :

گفت پیغمبرؐ کہ عینایَ ینام
لاینام القلب عن ربّ الانام

چشم تو بیدار و دل رفته بہ خواب
چشم من خفته دلم در فتح باب

"رسول اکرم ﷺ نے فرمایا : کہ ہماری آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ہمارا دل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے - لیکن تمہاری آنکھیں کھلی ہیں اور تمہارے دل سو رہا ہے ، ہماری آنکھیں بند ہیں اور دل خدا کی یاد میں بیدار ہے۔" مولانا روم ایک اور مقام پر کہتے ہیں :

گفت پیغمبر کہ دل ہمچوں پری است
در بیابانی اسیر صرصری است

باد پر راہر طرف راند گزاف
گہ چپ و گہ راست با صد اختلاف

"پیامبر اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ دل ایسے پتے کی مانند ہے جو بیابان میں ہوا کے دوش پر ہے یہ ہوا اسے ہر طرف اڑائے پھرتی ہے کبھی دائیں اور کبھی بائیں اڑا دیتی ہے۔"
یہ نفس اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو ہر گھڑی انسان کو فساد کی طرف کھینچتا ہے (انّ النفس لأمرأۃ بالسوء الا ما رحم رب) (۱)

اسی وجہ سے قرآن مجید جنت کو ان سے مخصوص قرار دیتا ہے جو لوگ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ دل میں بھی برتری حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور فکر فساد سے دور رہتے ہیں۔ (۲) بہشت ان کاملجاً و ماویٰ ہے جو اپنے نفس کو ہوس سے روکتے ہیں - (۳)

اولیائے خدا اپنے افکار و خیالات کے اوپر حاکم ہیں نہ کہ ان کے محکوم - یہ لوگ خدا کی عبادت کی وجہ سے اس طرح اپنے نفس پر مسلط ہیں کہ وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ حتیٰ وسوسہ ان کے دل میں داخل ہو جائے۔

.....

۱. یوسف ۵۳.
۲. قصص ۸۳.
۳. نازعات ۴۱.

من جو مرغ او جم اندیشہ مگس
کی بود بر من مگس را دسترس

یعنی میں ایک پرندے کی طرح ہوں اور مکھی سے فکر و خیالات کے بلندیوں بھلا مکھی کے لئے مجھ تک رسائی کہا ممکن ہے -

انسان جب نور خدا اور معرفت و آگاہی حاصل کر لیتا ہے اور عارفانہ و عاشقانہ نماز کے ذریعہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور روح کو رضائے الہی کی سمت میں لگا کر اپنے نفس پر مسلط ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عالم ہستی پر بھی حاکم ہو جاتا ہے - اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ خدائی کام انجام دیتا ہے -

انبیاء کے معجزات یہی ہیں کہ یہ لوگ عالم ہستی میں تصرف کا اختیار اور کائنات پر تسلط رکھتے ہیں جو چاہیں اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں - " العبودیۃ جوہرۃ کنہہا الربوبیۃ " یعنی خالص عبادت ایک ایسا جوہر ہے جس کی حقیقت ربوبیت ہے - اس کا مطلب اسی عالم ہستی پر تسلط ہے جو خدائے تعالیٰ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے -

حدیث میں ہے کہ پروردگار فرماتا ہے: انسان مستحب کاموں کے ذریعہ قدم با قدم مجھ سے نزدیک ہوتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور جس وقت وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت میں اس کی آنکھیں ، اس کے کان ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں - اس کی ساری حرکات خدائی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل - کی طرح کہتا ہے :

(اِنَّ صَلَاتِیْ وَنَسْکِیْ وَحَیْآتِیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ) (۱)

میری نماز و عبادت ، موت و حیات تمام کی تمام عالمین کے پروردگار کے لئے ہیں -

اس کے بعد جب بھی وہ دعا یا سوال کرے گا تو ہم قبول کریں گے - (۲)

.....

۱. انعام ۱۶۲.
۲. بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ ۲۲ .

تصویر نماز

نماز کے بارے میں جتنا بھی لکھا اور پڑھا جائے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا - بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کا ستون ، اسلام کا پرچم ، تمام ادیان و انبیاء کی یادگار ، تمام اعمال کی قبولیت کا محور چند جملوں میں بیان ہو جائے ؟

* نماز ہر صبح و شام کا عمل ہے - صبح کا سب سے پہلا واجب کام نماز اور شام کا آخری واجب نماز ہے یعنی ہر روز کا آغاز و انجام خدائے تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہے اور خدا کے لئے ہے -

* سفر میں ہویا وطن میں ، زمین پر ہو یا ہوا میں ، فقیری میں ہو یا امیری میں ، ہر جگہ نماز کا راز یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو اور جو کچھ بھی ہو خدا کے مطیع رہو نہ غیر خدا کے -

* نماز مسلمانوں کی وہ عملی آئیڈیلوجی ہے جس میں وہ اپنے عقائد و افکار ، اپنی چاہت اور اپنا آئیڈیل بیان کرتے ہیں -

* نماز ؛ اقدار کو استحکام عطا کرنا اور سماج کی ہر فرد کی شخصیت کو مجروح ہونے سے محفوظ رکھنا ہے - اگر کسی مکان کا تعمیری مسالہ اور سامان کمزور ہو تو وہ مکان گر جاتا ہے -

* نماز کی اذان ، توحید کا وہ بگل ہے جو اسلام کی متفرق فوج کو ایک صف اور ایک پرچم تلے جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے اور ان سب کو امام عادل کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے -

* امام جماعت ایک ہوتا ہے اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پوری قوم کا امام بھی ایک ہو تاکہ معاشرے کے امور میں مرکزیت رہے -

* امام جماعت نماز میں ضعیف ترین لوگوں کی رعایت کرے تاکہ اس کے لئے یہ درس ہو کہ معاشرتی امور کا فیصلہ کرتے وقت بھی محروم طبقات کی رعایت کی جائے۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے نماز کی حالت میں کسی بچہ کے رونے کی آواز سنی تو نماز کو جلدی تمام کر دیا تاکہ اگر اس کی ماں نماز جماعت میں شریک ہو تو وہ اپنے بچہ کو چپ کر لے۔ (۱)

* انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا حکم سجدہ کا تھا جو فرشتوں کو دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ (۲)

* زمین کاسب سے پہلا ٹکڑا (مکہ و کعبہ) جو پانی سے باہر آیا اور خشکی بنا وہ عبادت کی جگہ قرار پایا۔ (۳)

* مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد پیغمبر اسلام ﷺ کا سب سے پہلا کام تعمیر مسجد تھا۔

* نماز، امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی۔ ہم ہر روز اذان اور اقامت میں کہتے ہیں: "ح علی الصلاة، ح علی الفلاح، ح علی خیر العمل" اور یہ جملات کہنا اعلیٰ ترین معروف یعنی نماز کا حکم ہے۔

دوسری طرف نماز انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے: (ان الصلاة تنهوا عن الفحشاء و المنکر) (۴)

نماز ایک ایسی حرکت ہے جو آگاہی اور شناخت خدا سے پیدا ہوتی ہے۔ خداوند عالم کی ایسی شناخت کہ جس میں ہم اس کے حکم سے، اس کے لئے اور اس کے اُتس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے مستی (۵) اور سستی (۶) کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تاکہ جو کچھ بھی ہم نماز میں کہیں وہ توجہ اور آگاہی کے ساتھ ہو۔

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۸۸ صفحہ ۴۱ و ۹۳۔

۲۔ بقرہ ۳۴۔

۳۔ آل عمران ۹۶۔

۴۔ عنکبوت ۴۵۔

۵۔ نساء ۴۳۔

۶۔ نساء ۱۴۲۔

* نماز آگاہی دیتی ہے۔ ہر ہفتہ، جمعہ کے روز نماز جمعہ قائم ہوتی ہے اور نماز جمعہ سے پہلے دو خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دو خطبے دو رکعت نماز کی جگہ پر ہیں یعنی نماز کا جزء ہیں۔ اور امام رضا کے ارشاد کے مطابق یہ خطبے اس طرح پڑھے جائیں کہ ان میں دنیا کے مسائل بیان ہوں۔ (۱)

دونوں خطبوں کو سننا اس کے بعد نماز پڑھنا یعنی عالمی مسائل سے آگاہ ہونا اور اس کے بعد نماز پڑھنا۔ نماز انسانیت سے نکل کر خدائے تعالیٰ کی طرف پرواز کرنا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

(وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (۲)

جو شخص خدا اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہجرت کے لئے اپنے گھر سے نکلے اور اس کو موت آجائے تو اس کا اجر خدا پر ہے۔

امام خمینی فرماتے ہیں: خانہ دل سے خدا کی طرف ہجرت کرنا بھی اس آیت کا ایک مصداق ہے، خود پسندی، خود خواہی اور خود بینی سے خدا پرستی اور خدا خواہی کی طرف ہجرت، سب سے بڑی ہجرت ہے۔ (۳)

* نماز کی منزلت اسم اعظم جیسی ہے بلکہ خود نماز اسم اعظم ہے۔

* نماز مینخدائے تعالیٰ کی عزت اور بندہ کی ذلت کابیان ہے اور یہ سب سے بڑا مقام ہے۔

* نماز پرچم اسلام ہے "عَلَّمَ الْإِسْلَامَ الصَّلَاةَ" (۴)

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۸۹ صفحہ ۲۰۱۔

۲۔ نساء ۱۰۰۔

۳۔ اسرار الصلاة صفحہ ۱۲۔

۴۔ کنز العمال حدیث ۱۸۸۷۰۔

جس طرح کوئی جہنڈا اور پرچم نشانی ہو تانبے اسی طرح نماز بھی مسلمان کی نشانی اور پہچان ہے۔ جس طرح پرچم لائق احترام ہے، پرچم کی توہین ایک قوم اور ملک کی توہین ہے اسی طرح نماز کی توہین اور اس سے بے توجہی پورے دین سے بے توجہی ہے۔ جس طرح پرچم کے لہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاست زندہ ہے، اور قدرت و طاقت باقی ہے

اسی طرح نماز کے قیام میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے -

نماز اور قرآن

کچھ جگہوں پر قرآن کریم و نماز کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے ، جیسے

(یتلون کتاب اللہ و اقاموا الصلاة) (۱)

قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں -

دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے

(یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة) (۲)

قرآن سے تمسک کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں -

کبھی قرآن مجید اور نماز کے لئے ایک ہی صفت بیان ہوئی ہے جیسا کہ کلمہ ذکر قرآن کے لئے بھی کہا گیا ہے (انا نحن

نزلنا الذکر) (۳) ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے -

اور اسی صفت کو نماز کا فلسفہ بھی قرار دیا ہے (اقم الصلاة لذكر) (۴) نماز کو ہماری یاد کے لئے قائم کرو -

.....

۱۔ فاطر ۲۹ .

۲۔ اعراف ۱۷۰ .

۳۔ حجر ۹ .

۴۔ طہ ۱۴ .

عجیب بات تو یہ ہے کہ کبھی لفظ نماز کہ بجائے قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے (انّ قرآن الفجر کان مشہوداً) (۱) کہا یہی جاتا ہے کہ " قرآن الفجر " سے مراد نماز صبح ہے ، اس سے اہم بات یہ ہے کہ نماز میں قرآن کو حمد و سورہ کی شکل میں پڑھنا و اجبات نماز میں سے ہے - نماز کا تذکرہ قرآن کریم کے اکثر سوروں میں موجود ہے جیسے قرآن کے سب سے بڑے سورے ، سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹے سورہ کوثر میں نماز کا ذکر موجود ہے -

نماز اور قصاص

صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ تمام ادیان الہی میں قصاص کا حکم موجود ہے اور قصاص گناہ کے مطابق ہوتا ہے - جیسے اگر کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کی سزا میں بھی کان ہی کاٹا جائے - اگر کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے تاکہ عدالت قائم ہو -

انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے البتہ اس کی ہتھیلی باقی رہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے:

(و انّ المساجد لله) (۲) مساجد (سجدہ کی جگہیں) خدا کے لئے ہیں -

چونکہ سجدہ کے وقت ہاتھ کی ہتھیلی زمین پر رکھنا واجب ہے لہذا چور کی سزا میں نماز اور سجدہ کے مسئلہ پر توجہ رہے اور اس کی ہتھیلی نہ کاٹی جائے تاکہ حق عبادت حتیٰ چور کے لئے بھی محفوظ رہے - ؟

عبادت و امامت

عبادت کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سطحی نہ ہو بلکہ آسمانی رہیں اور اس کی

.....

۱۔ اسراء ۷۸ .

۲۔ جن ۱۸ .

ولایت کی پہچان اور اپنے مخصوص آداب نیز خشوع کے ساتھ ہو -

حضرت علی - کچھ خشک مقدس نماز پڑھنے والوں میں پہنس گئے تھے جو تاریخ میں مارقین و خوارج کے نام سے مشہور ہیں ، جن کی پیشانیوں پر زیادہ اور طویل سجدوں کی وجہ سے گھٹے پڑے ہوئے تھے لیکن یہی لوگ حضرت علی - کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے اوپر تلوار کھینچ لی ، روایت میں آیا ہے کہ جب امام زمانہ - ظہور کریں گے اس وقت کچھ سجدہ کرنے والے آپ کی مخالفت کریں گے -

یہ گمان ہرگز نہ ہو کہ وہ لوگ جو امام حسین - کو شہید کرنے کے لئے آئے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ لوگ نماز جماعت پڑھتے تھے - خود یزید اور معاویہ بھی پیش نماز تھے۔

جی ہاں! اگر عبادت جہالت کے ساتھ ہو تو انسان، محراب عبادت میں عالمین کے سب سے بڑے عابد کو قتل کرنے کو سب سے بڑی عبادت سمجھنے لگتا ہے اور قصد قربت کے ساتھ شب قدر میں حضرت علی کو شہید کرنے کے لئے جاتا ہے۔

صرف نماز ہی نہیں بلکہ ساری عبادتیں ربہر حق کی معرفت اور اس کی اطاعت کے ساتھ ہونی چاہئیں لہذا روایتوں میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے حج کو واجب کیا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوں اور اس اجتماع کے مقام پر معصوم اماموں سے رابطہ قائم کریں، لیکن آج کل لا کھوں لوگ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو تے ہیں مگر الہی ربہر سے تمسک نہ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ مرکز وحدت اور اقتصادی خزانوں اور تجارتی منڈیوں کے مالک ہونے کے باوجود مٹھی بھر بیہودیوں کے ہاتھوں ذلیل ہیں۔

واقعا اسلام ایک ایسا مجموعہ ہے جس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا۔ ولایت کو قبول کئے بغیر نماز قبول نہیں، زکات ادا کئے بغیر نماز قبول نہیں، جس طرح انفاق بھی بغیر نماز کے قبول نہیں ہے۔

اسلام کے احکام بدن کے اعضاء کی طرح ہیں کہ ایک عضو دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آنکھ کان کا کام نہیں انجام دے سکتی اور کان ہاتھ کا کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسلام میں نماز پڑھنا زکات کی جگہ نہیں لے سکتا یا نماز و زکات خدا کی راہ میں جہاد کی جگہ پُر نہیں کر سکتے بلکہ ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔

نماز اور ربہری

اگر الہی ربہر کے ذریعہ نماز قائم ہو تو ظلم وجور کا تختہ پلٹ جائے گا۔ امام رضا - کی نماز عید اس بیبت و عظمت سے شروع ہوئی کہ ظالم حکومت لرز اٹھی اور ظالم سمجھ گئے کہ اگر یہ نماز پڑھا دی گئی تو بنی عباس کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا مامون نے حکم دیا کہ امام کو راستہ ہی سے واپس بلا لیں۔

آج کل کے مسلمانوں کی نماز میں کوئی اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ حصہ پر عمل ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے

(واقیموا الصلاة و اتوا الزکاة و اطیعوا الرسول) (۱)

نماز پڑھو زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو۔

لیکن آج کل بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکات نہیں دیتے اور بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں لیکن کفار کی حاکمیت قبول کئے ہوئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن طاغوت سے دوری اختیار نہیں کرتے ہیں اور یہ ایمان ناقص ہے جبکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

۱۔ نور ۵۶۔

(فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی) (۱)

"اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا" یعنی طاغوت سے دوری بھی لازم ہے اور خدا پر ایمان بھی۔ لیکن آج کل مسلمانوں نے طاغوت و کفر سے برائت کو فراموش کر دیا ہے لہذا جو لوگ طاغوت کے گرد گھومتے ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے: وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔

(أ لم تر الی الذین یزعمون أنهم آمنوا) (۲)

عبادت کے درجات

اگر آپ کسی بچے سے یہ سوال کریں کہ تم اپنے ماں باپ کو کس لئے چاہتے ہو؟

وہ کہتا ہے: اس لئے کہ وہ ہمارے لئے مٹھائی، کپڑے اور جوتے خریدتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سوال کسی جوان سے کریں کہ اپنے والدین کو کس لئے چاہتے ہو؟

تو وہ کہے گا اس لئے کہ والدین ہماری حیثیت و مقام کی علامت ہیں، وہ ہمارے مربی اور ہمارے دل سوز ہیں۔

اگر بچہ سمجھ دار اور بالغ ہو جائے تو اس کے لئے والدین سے انسیت اور محبت زیادہ لذت بخش ہوتی ہے۔ پھر وہ جوتے

اور کپڑوں کی فکر میں نہیں رہتا بلکہ اس سے زیادہ والدین کی خدمت کو قرب و کمال کا وسیلہ سمجھتا ہے اور مادیات سے بالاتر فکر کرتا ہے۔

۱۔ بقرہ ۲۵۶۔

۲۔ نساء ۶۰۔

اللہ کی عبادت بھی اسی طرح ہے کہ ہر شخص اپنی دلیل اور سوچ کے مطابق خدا کی عبادت کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ عبادت کے بھی چند مرحلے ہیں۔ پہلا قدم : بعض لوگ خدا کی نعمت کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کا شکر بجا لائیں جیسا کہ قرآن مجید عام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے :

(فليعبدوا ربَّ هذا البيت الذ اطمعهم من جوع و آمنهم من خوف) (۱)

لہذا انہیں چاہئے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ رکھا ہے۔

پہلی منزل کی عبادت جس کو ہم عبادتِ شکر کہتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس بچہ کی محبت جو اپنے والدین کو چاکلیٹ ، بستہ اور جوتا خریدنے کی وجہ سے چاہتا ہے۔ دوسرا قدم : اس منزل میں انسان نماز کے اثرات اور اس کی برکات کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتا ہے اس کی پوری توجہ نماز کے روحانی و معنوی اثرات پر ہوتی ہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے :

(ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) (۲)

بیشک نماز انسان کو گناہ اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس مرحلہ کی عبادت کو عبادتِ رشد و ترقی کہتے ہیں۔ اس طرح کی عبادت اس جوان کی طرح ہے جو اپنے والدین کو اس لئے چاہتا ہے کہ وہ لوگ اس کے معلم اور اس کی تربیت کرنے والے ہیں اور انحرافات و خطرات سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی لئے وہ ان کا احترام کرتا ہے۔

۱۔ قریش ۳ و ۴۔

۲۔ عنکبوت ۴۵۔

تیسرا قدم : یہ پہلی منزلوں سے بالاتر ہے یہ منزل ایسی ہے کہ خداوند عالم حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے :

(اقم الصلاة لذكري) (۱)

ہم کو یاد کرنے کے لئے نماز پڑھو۔

جناب موسیٰ کھانے اور پانی کے لئے نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی گناہ اور غلط باتوں سے بچنے کے لئے نماز پڑھتے تھے۔ اس لئے کہ وہ اصولاً شکم پرستی اور برائیوں سے دور تھے۔ وہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ وہ نماز کو خدا کی محبت اور اس کے لئے پڑھتے تھے۔

اولیائے خدا کے یہاں خدا سے انس و محبت ہی عبادت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

جی ہاں ! یہ بچے ہوتے ہیں جو کسی پروگرام میں سب سے آگے بزرگوں کے پاس اس لئے آ بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی خاطر داری اچھی طرح ہو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بزرگوں کے پاس معنوی فائدہ حاصل کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں انہیں اپنی خاطر داری سے مطلب نہیں ہوتا۔ ان کے لئے علماء اور عقل مندوں سے محبت ہی قابل قدر ہے۔

چوتھا قدم : یہ منزل عبادت کی سب سے اہم اور اعلیٰ ترین منزل ہے۔ یہ عبادت ؛ شکر و رشد اور محبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قرب خدا کے لئے ہے۔ تقرب الہی کے سلسلے میں قرآن مجید میں چار آیتیں ہیں۔ جو شخص ان آیتوں کو پڑھے اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک آیت میں آیا ہے کہ تقرب، عبادت سے حاصل ہوتا ہے خدا فرماتا ہے :

(و اسجد و اقترب) (۲)

سجدہ کرو اور اس کی قربت حاصل کرو۔

بہر حال عبادت کے کچھ درجات اور مراتب بینجن میں لوگوں کے ایمان اور معرفت کے درجات کی بنا پر فرق ہوتا رہتا ہے۔

۱۔ طہ ۱۴۔
۲۔ سورہ علق آخری آیت۔

نماز کی تفسیر

تصویر عبادت

* عبادت و بندگی نے رسول خدا ﷺ کو معراج پر پہنچایا :

(سبحان الذ اسرى بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ) (۱)

پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔

* عبادت فرشتوں کے نزول کا پیش خیمہ ہے

(نزلنا علی عبدنا) (۲)

ہم نے اپنے بندے پر (فرشتوں کے ذریعہ) وحی نازل کی۔

* عبادت انسان کی دعا مستجاب کرتی ہے اس لئے کہ نماز خدا سے عہد و پیمان ہے (۳) اور جو بھی پیمان خدا کو وفا کرے گا تو خدائے تعالیٰ بھی اس کے پیمان پر وفادار ہے۔

(أوفوا بعہد اوف بعہدکم) (۴)

۱۔ اسرائی ۱۔

۲۔ بقرہ ۲۳۔

۳۔ الم ا عہد الیکم یا بن آدم ان لا تعبدوا الشیطان اِنَّہ لکم عدو مبین۔ و ان اعبدون ہذا صراط مستقیم " یس ۶۰ ، ۶۱ . ۴۔

بقرہ ۴۰۔

عبادت کے بغیر انسان جمادات اور پتھر سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ قرآن مجید فرماتا ہے :

(و ان من الحجارة لما یہبط من خشية الله) (۱)

اللہ کے خوف سے بعض پتھر زمین پر گر جاتے ہیں لیکن بعض انسان خالق دنیا و آخرت کے سامنے اپنی گردن تک نہیں جھکاتے۔

عبادت انسان کے ارادہ اور اسکی شخصیت کی پہچان ہے چونکہ انسان چاہتوں اور تمایلات کے درمیان ہے لہذا اگر وہ خواہشات اور جذبات سے منہ موڑ لے اور خدا کی طرف چلا جائے تو اہمیت رکھتا ہے۔ ورنہ فرشتے شہوت و غضب نہیں رکھتے اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

* عبادت زمین کے گمنام لوگوں کو آسمان کے مشہور ترین لوگ بنا دیتی ہے۔

* عبادت انسان کے وجود کے چھوٹے سے جزیرے کو عالم ہستی کے سرچشمہ سے ملا دیتی ہے۔

* عبادت ، یعنی پوری کائنات پر اوپر سے ایک نظر۔

* عبادت یعنی انسان کے اندر چھپی ہوئی عرفانی اور روحانی استعدادوں کی نشو و نما۔

- * عبادت ایسی قدر ہے جس کو انسان اپنے ارادہ و اختیار سے حاصل کرتا ہے بر خلاف خاندانی اقدار یا اندرونی استعداد کے ، جو اختیاری و اکتسابی نہیں ہیں ۔
- * عبادت خدا سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو تازہ کرنا اور روحانی زندگی کو زندہ رکھنا ہے ۔
- * عبادت ، گناہ کے لئے رکاوٹ اور اس کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے ۔ وہ خدا کی یاد اور اس کا ذکر ہے جو گناہ سے روکتا ہے نہ فقط گناہ کا علم ۔
- * عبادت ، روح کے خالی ظرف کو یاد خدا سے پُر کرنا ہے ۔ اگر یہ ظرف غیر خدا سے پر ہو تو گوہر انسانیت پر ظلم ہے ۔

.....
۱۔ بقرہ ۷۴۔

- * عبادت ، اس خاکِ زمین کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ اس زمین میں طہارت کے بغیر داخلہ ممکن نہیں جیسے مسجد ، کعبہ اور بیت المقدس ۔
- * عبادت و بندگی خدا، خود ایک قدر ہے اگرچہ ہماری دعا و حاجات پوری نہ بھی ہوں ۔
- * عبادت خوشی میں بھی ہے اور غمی میں بھی ۔ جہاں پر خدا ؛ رسول اکرم ﷺ کو کوثر عطا کر رہا ہے وہاں نماز کی بھی تاکید کر رہا ہے :
- (اَنَا اعطیناک الکوثر فصلاً لربک) (۱)
- ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کیا پس خدا کی عبادت (نماز) بجا لاؤ ۔
- اسی طرح مشکلات میں بھی نماز کی تاکید کی گئی ہے :
- (و استعینوا بالصبر و الصلاة) (۲)

مشکل کشا نمازیں

اسلام تاکید کرتا ہے کہ جس وقت کوئی حاجت یا مشکل پیش آئے تو مخصوص نمازوں کو پڑھ کر اپنی مشکلوں کو حل کرو ۔ یہاں پر مناسب ہے کہ ان مخصوص نمازوں میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیں :

نماز جعفر طیار

جناب جعفر طیار حضرت علی ۔ کے بھائی ہیں جنہوں نے حبشہ میں اپنی ہجرت کے دوران اپنے مناسب استدلال و کردار سے نجاشی اور ایک کثیر تعداد کے دلوں کو اسلام کی طرف

.....
۱۔ کوثر ۱۔

۲۔ بقرہ ۴۵۔

- جذب کیا اور براعظم افریقہ میں اسلام کے بانی بنے ۔ اور جنگ موتہ میں اپنے دونوں ہاتھ راہ خدا میں دے دیئے ۔ خداوند عالم نے ان دونوں ہاتھوں کی جگہ آپ کو جنت میں دو پر عطا کئے اسی وجہ سے آپ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے (طیار یعنی اڑنے والا) ۔
- جس وقت جعفر حبشہ سے واپس آئے تو رسول اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا : کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک قیمتی ہدیہ دیدوں ؟ لوگوں نے خیال کیا کہ رسول اسلام ﷺ ان کو سونا یا چاندی یا کوئی دوسری قیمتی چیز عطا کرنا چاہتے ہیں ۔ اسی خیال سے سب لوگ آنحضرت ﷺ کے گرد جمع ہو گئے تاکہ پیغمبر کا ہدیہ دیکھیں ۔ لیکن آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا : کہ ہم تم کو ایک نماز ہدیہ کر رہے ہیں اگر ہر روز اس کو پڑھو گے تو دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اگر ہر روز یا ہر جمعہ یا ہر ماہ یا ہر سال بجا لاؤ تو ہر روز دو نمازوں کے بیچ کے سارے گناہ (ولو دو نمازوں میں ایک سال کا فاصلہ ہو) بخش دے گا۔ (۱)
- امام جعفر صادق ۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی مشکل یا حاجت پیش آئے تو نماز جعفر طیار پڑھنے کے بعد دعا کرو

انشاء اللہ دعا مستجاب ہوگی ۔

یہ نماز شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں معتبر سندوں سے نقل ہوئی ہے اور اس کا نام " اکثر اعظم " و " کبریت احمر " پڑ گیا (۲)

اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ مفاتیح الجنان کے شروع میں روز جمعہ کے اعمال میں ائمہ معصومین کی نمازوں کے بعد موجود ہے ۔ البتہ یہ ان دسیوں نمازوں میں سے ایک ہے جو مشکلات کو دور کرنے کے لئے وارد ہوئی ہیں ۔ حال ہی میں ایک کتاب ، مستحبی نمازوں کے عنوان سے نشر ہوئی ہے۔

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۱۸ صفحہ ۴۲۱۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۹۱ باب فضل صلاة جعفر ۔

جس میں تقریباً ۳۵۰ مستحبی نمازوں کو ان کے نام اور ان کے پڑھنے کے طریقہ کے ساتھ جمع کیا گیا ہے ۔ اتنی قسم کی نمازیں اور ہر مناسبت سے متعلق ایک نماز یہ خود نماز کی ایک اہمیت ہے ۔

نماز کا تقدس

نماز کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ بعض دینی مراسم کے وقت جیسے قسم یا گواہی دینے سے پہلے نماز پڑھی جائے اس کے بعد قسم کھائی جائے یا گواہی دی جائے ۔
قرآن مجید سورئہ مائدہ آیت ۱۰۶ میں فرماتا ہے :

جس وقت کوئی سفر میں بیمار ہو جائے اور موت کے قریب پہنچ جائے تو دو مسلمان یا غیر مسلم افراد کو اپنی وصیت پر گواہ بناؤ اور یہ گواہی نماز کے بعد انجام پائے یعنی یہ دو لوگ نماز پڑھنے کے بعد قسم کھا کر کہیں کہ فلاں مسلمان نے سفر میں یہ وصیت کی ہے ۔

آج کل رواج ہے کہ قسم کھانے کی رسم قرآن مجید کو سامنے اور اس پر ہاتھ رکھ کر انجام پاتی ہے لیکن خود قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے کہ شرعی قسم کے مراسم نماز کے بعد انجام دیئے جائیں ۔

جامعیتِ نماز

پروردگار عالم نے کائنات کی خلقت اور اپنی شریعت کے احکام بنانے میں عالی ترین اور کامل ترین امور کو استعمال کیا ہے جیسے ماں کا دودھ ایسا بنایا ہے کہ بچہ کو جتنے وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ماں کے دودھ میں جمع کر دیئے ہیں ۔

اسی طرح انسان کی خلقت کو اگر دیکھیں تو جو بھی کائنات میں موجود ہے انسان کے اندر ان ساری چیزوں کو جمع کیا ہے ۔

اگر کائنات میں بجلی کی کڑک ہے تو انسان میں چیخ و پکار ہے ۔

اگر کائنات میں گھاس پھوس اور درخت ہیں تو انسان میں بالوں کی نمو ہے ۔

اگر کائنات میں دریا ہے تو انسان کے اندر موٹی اور باریک رگیں ہیں ۔

اگر کائنات میں میٹھا و کھارا پانی ہے تو انسان میں کھارے آنسو اور میٹھا لعاب دہن ہے ۔

اگر کائنات میں دھاتیں کثرت سے ہیں تو انسان میں کثرت سے صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔

اس شعر میں جس کی نسبت حضرت علی ۔ کی طرف دی جاتی ہے ، آپ فرماتے ہیں :

اتز عم أنك جرم صغير و فيك انطوى العالم الاكبر

" اے انسان تو گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا وجود ہے جب کہ اتنی بڑی دنیا تیرے اندر چھپی ہوئی ہے ۔ "

نماز بھی خدا کی ہنر نمائی کا کرشمہ ہے کہ پروردگار نے تمام اقدار و کمالات کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے ۔ کون سا

ایسا کمال ہے جو کمال تو ہو مگر وہ نماز میں نہ پایا جاتا ہو ؟ !

خدا کی یاد ایک بیش قیمت شے ہے اور فقط اسی کے ذریعہ دلوں کو سکون و آرام حاصل ہوتا ہے اور نماز یاد خدا ہے (اللہ

اکبر !)

یاد قیامت ایک بیش قیمت شے ہے جو گناہ و فساد سے روکتی ہے اور نماز "یوم الدین" کو یاد دلانے والی ہے ۔

انبیاء و شہداء و صالحین کا راستہ ایک بیش قیمت شے ہے اور ہم نماز میں خدا سے کہتے ہیں کہ ہمیں "صراط الذین انعمت علیہم" پر قرار دے۔

ظالم اور گمراہوں سے نفرت و برائت کا اعلان اس جملہ " غیر المغضوب علیہم و لا الضالین " کے ذریعہ کرتے ہیں۔ عدالت جو تمام اقدار سے بالاتر ہے امام جماعت کی شرطوں میں سے ہے۔ نماز میں امام جماعت کی پیروی ایک قابل قدر معاشرتی قانون ہے۔ یعنی ہمیں خود سری اور خود روی کے بجائے ایک عادل رہبر کا تابع ہونا چاہئے۔ امام جماعت کا انتخاب ہمیشہ تمام اقدار پر توجہ کے ساتھ ہو: جیسے سب سے زیادہ عادل ہو، سب سے زیادہ فقیہ ہو، سب سے زیادہ فصیح ہو وغیرہ۔

قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا بہت سی اقدار کی یاد آوری ہے، مکہ؛ حضرت بلال کی شکنجہ گاہ، حضرت اسماعیل۔ کی قربان گاہ، حضرت علی بن ابیطالب۔ کی جائے ولادت، قیام مہدی کا مرکز، حضرت ابرہیم۔ کی امتحان گاہ اور تمام انبیاء و اولیاء کی عبادت گاہ ہے۔

نماز میں جو کچھ بھی ہے تحریک ہے ہر صبح و شام، رکوع و سجود اور قیام میں، مسجد و جامع مسجد کی طرف جانے میں ہر جگہ حرکت ہی حرکت ہے، پس خاموش اور گوشہ نشین نہ بنو بلکہ ہمیشہ متحرک رہو اور کوشش میں لگے رہو لیکن یہ تمام حرکتیں خدا کے لئے اور اسی کی طرف ہوں۔

نماز میں انسان کی روح و جان کی دھول صاف ہوتی ہے۔ نماز غرور و تکبر کی دھول کو صاف کر دیتی ہے، اس لئے کہ انسان رات دن میں دسیوں مرتبہ اپنے بدن کے سب سے اعلیٰ مقام (پیشانی) کو زمین پر رگڑتا ہے۔ خاک پر سجدہ پتھر پرسجدہ کرنے سے بہتر ہے اس لئے کہ پیشانی کو خاک پر رگڑنے میں اظہار ذلت زیادہ ہے۔ زمین، با جو چیز زمین پر اگتی ہے اس پر سجدہ کرو اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ کی فکر میں ان پر گر پڑو۔

پاک زمین پر سجدہ کرو اس لئے کہ ناپاکی کے ذریعہ پاکیزگی کے سرچشمہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خوف خدا سے رونا ایک قیمتی چیز ہے اور قرآن مجید نے گریہ و زاری کے ساتھ کئے جانے والے سجدہ کی تعریف کی ہے:

(سُجِّدْ وَبُكِّیْ) (۱)

نماز وہ الہی راستہ ہے جو پیدائش سے لیکر موت تک ہمارے لئے بنایا گیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دابنے اور بائیں کان میں اذان و اقامت کہو جو نماز کی تاکید ہے "ح علی الصلاة" اور جب مرجائے تو نماز میت پڑھ کر دفن کرو (یعنی پیدائش کے وقت اذان و اقامت اور مرنے پر نماز) نیز ساری زندگی عبادت و پرستش خدا میں گزارو "و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین" (۲)

نماز، انسان اور کائنات کا پیوند ہے۔ نماز کا وقت جاننے کے لئے خصوصاً صبح اور ظہر میں ضروری ہے کہ سورج کو دیکھو۔ (جس سے نماز کا وقت پتہ چلے) قبلہ معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ستاروں کو دیکھو۔ مہینہ کے متبرک ایام کی مستحبی نمازوں کو پڑھنے کے لئے چاند کی حرکت پر دھیان رکھو۔ وضو و غسل کے لئے پانی اور تیمم کے لئے خاک کی طرف متوجہ ہو۔

نماز اور چاند، سورج، ستارے، پانی اور مٹی کے درمیان موجود یہ رابطہ کس کی منصوبہ بندی اور کس صانع حکیم کی حکمت ہے؟

اسی طرح دین کے دوسرے واجبات بھی کسی نہ کسی طرح نماز میں موجود ہیں۔ نماز پڑھنے والا روزہ دار کی طرح کھانے پینے اور تسکین شہوت کا حق نہیں رکھتا۔

۱۔ مریم ۵۸۔

۲۔ حجر ۹۹۔

نماز پڑھنے والے کے لئے، حج کرنے والے کی طرح کعبہ اور قبلہ محور ہے۔ نماز پڑھنے والا جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ لیکن جہاد اکبر جو جہاد بالنفس ہے۔ خود نماز سب سے بڑا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔

ہجرت ، دین میں سب سے بڑی اقدار میں سے ہے اور حضرت ابراہیم - نے نماز کے لئے ہجرت کی، اپنی بیوی اور بچہ کو کعبہ کے پاس چھوڑ دیا اور کہا :

(رَبَّنَا ان اسکنت من ذریت بوادٍ غیر ذی زرع رَبَّنَا لیقیموا الصلّٰة) (۱)

پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاه وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں ۔

قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم - یہ نہیں کہتے کہ میں نے حج کے لئے ہجرت کی بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے کے لئے ہجرت کی ہے ۔

بہر حال پروردگار نے تمام اقدار اور کمالات کو نماز میں ، نماز کے ساتھ اور نماز کے لئے قرار دیا ہے ۔

اگر زینت و صفائی اچھی چیز ہے تو اسلام نماز کے لئے اس کی تاکید کرتا ہے :

(خذوا زینتکم عند کل مسجد) (۲)

مسجدوں میں جانے کے لئے اپنے کو مزین کرو ، صاف ستھرے اور پاک و پاکیزہ کپڑے پہن کر ، عطر لگا کر مسجد میں جاؤ ۔

عورتوں کے لئے حکم ہوا کہ نماز میں اپنے زیور پہنے رہیں اور اپنے زیور سے اپنی

۱۔ ابراہیم ۳۷۔

۲۔ اعراف ۳۱۔

زینت کریں ۔ (۱)

حتیٰ مسواک پر بھی توجہ دی گئی ہے ۔ روایتوں میں آیا ہے مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کی ۷۰ نمازوں کے برابر ہے (۲) اور فرمایا پیاز و لہسن کھا کر مسجد میں نہ جاؤ (۳) تاکہ تمہارے منہ کی بد بو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور لوگ مسجد سے نہ بھاگیں ۔

بہر حال یہ اسلام کی نماز ہے اور یہ ہماری نماز ہے ۔ یا تو پڑھتے ہی نہیں اور یا بے توجہی سے اور غلط پڑھتے ہیں ۔ یا بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں یا آخری وقت میں پڑھتے ہیں ۔

وہ مسجدیں جن کے خادم کسی وقت ابراہیم - و زکریا - تھے حضرت مریم کی ماں نے یہ نذر کی تھی کہ ہمارا بچہ مسجد کا خادم ہوگا، لیکن آج کل مسجدوں کے خادم زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو کوئی کام نہ کر سکتے ہوں یعنی بوڑھے ، مریض ، فقیر ، جاہل اور کبھی بد اخلاق ہوتے ہیں۔ کیوں امام رضا - کے روضہ کی گرد و خاک صاف کرنا باعث فخر ہے ؟ کیا خدا کے گھر کی صفائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ؟

کیوں ہماری مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھی اس میں داخل ہو غم و اندوہ و سستی اس کو جکڑ لے ؟ ! کیا مسجد عزا خانہ

ہے ؟ ! یا مسجد ہمیشہ مجلس اور فاتحہ خوانی کے لئے ہے جو مسجد کے دروازے پر ہمیشہ کالا کپڑا لگا رہتا ہے ؟

البتہ الحمد للہ چند سال سے مسجدوں کے سلسلے میں بیداری پیدا ہوئی ہے ۔ کافی ایسی مسجدیں ہیں جن میں کتابخانہ ،

صندوق قرض الحسنہ اور دوسرے رفاہی امور پائے جاتے ہیں۔

کتنی اچھی ہے وہ حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن تین چیزیں لوگوں کی

شکایت کریں گی۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۸۰ صفحہ ۱۸۸۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۷۳ صفحہ ۱۳۳۔

۳۔ رسالہ امام خمینی مسئلہ ۹۱۵۔

پہلے : وہ عالم کہ جس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں ۔

دوسرے : وہ قرآن کریم جو گھر میں ہو اور اس کی تلاوت نہ ہو ۔

تیسرے : وہ مسجد جس کی طرف سے لوگ بے توجہ ہوں۔ (۱)
 مسجد کے بارے میں باتیں تو بہت ہیں بلکہ ابھی حال ہی میں ایک کتاب "سیمای مسجد" کے نام سے دو جلدوں میں چھپی ہے جو اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت اور اس کے مقام کو روشن کرتی ہے۔
 خلاصہ کلام یہ کہ مسجد ، صدر اسلام میں فیصلوں اور مشورے کے لئے مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی ، علم و دانش حاصل کرنے کی جگہ تھی ، مجاہدین کی چھاؤنی تھی ، فقراء اور بیماروں کی مشکلات کے حل کا مرکز تھی ، ظالم حکومتوں کے خلاف قیام کرنے اور ان کے اوپر اعتراض آمیز خطبوں کا مرکز تھی ۔
 مسجد کا یہی وہ اعلیٰ مقام تھا جس کی بنا پر پوری تاریخ میں مسلمانوں نے اس کے لئے بہترین فن معماری سے کام لیا اور مسجد کے اخراجات کے لئے کافی اموال وقف کئے تاکہ مسجد ہمیشہ آباد اور خود مختار رہے۔

.....
 ۱۔ بحار الانوار جلد ۲ صفحہ ۴۱۔

نماز کی تفسیر

دوسرا باب

نیت

نیت: نماز کا سب سے پہلا رکن ہے ۔
 نیت: یعنی ہم یہ جان لیں کہ کیا کر رہے ہیں ، کیا کہہ رہے ہیں ، کس کے لئے کر رہے ہیں اور کیا کام انجام دے رہے ہیں ۔ ہر کام کی اہمیت اس کی نیت اور قصد کی وجہ سے ہے نہ کہ صرف عمل ۔ لہذا اگر کوئی نظم و ضبط کی حفاظت کے خیال اور قانون کے احترام کی خاطر چوراہے کی لال لائٹ (Red light) پر ٹھہرے اور کوئی پولیس اور جرمانہ کے ڈر سے رکے ، تو ان دونوں میں بیحد فرق ہے ۔ تمام عبادتوں میں خصوصاً نماز میں نیت کا ایک خاص مقام ہے ۔ اصولی طور پر وہ چیز جو کسی کام کو عبادت بناتی ہے ، نیت الہی ہے ، کہ اگر وہ نیت نہ ہو تو وہ کام ظاہراً چاہے جتنا بھی اچھا ہو لیکن عبادت کہے جانے کے لائق نہیں ہے ۔
 پیغمبرؐ اسلام اس بارے میں فرماتے ہیں : " اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " (۱) تمام کام قصد و نیت کی وجہ سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور نیت پر تولے جاتے ہیں ۔
 جی ہاں ! کسی کام کے مادی یا معنوی ہونے کا انحصار نیت اور مقصد کے تفاوت پر ہے ۔

خالص نیت

خالص نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان فقط خدا کے لئے کام کرے اور اس کے دل و جان کی گہرائی میں خدا کی خوشنودی ہو ، خدا ہی اس کے مد نظر ہو اور وہ لوگوں سے اس کے صلہ اور شکر یہ کا منتظر نہ ہو ۔ (۲)

.....
 ۱۔ بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ ۲۱۰۔

رسول خدا ﷺ کے اہل بیت نے تین روز لگا تار یتیم و اسیر اور فقیر کو جو روٹیاں دیں ، مادی لحاظ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن چونکہ نیت خالصانہ تھی لہذا خدائے تعالیٰ نے اس کے عوض میں ایک سورہ نازل فرما دیا (۱)
اس سلسلے میں عطار نیشاپوری کہتے ہیں
گذشتہ زین جہان ، وصف سنانش
گذشتہ ز آن جہان ، وصف سہ نانش

ہم تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک شخص جو محاذ جنگ میں قتل ہو گیا تھا لوگ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ شہید ہو گیا ہے لیکن حضرت نے فرمایا کہ وہ "قتیل الحمار" ہے۔ یعنی گدھے کی راہ میں قتل ہوا۔ لوگوں نے تعجب کیا۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا : جنگ میں اس کے آنے کا مقصد خدا نہیں تھا بلکہ اس نے دیکھا کہ دشمن کافی اچھے گدھے پر سوار ہے اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ چلتے ہیں اس کو قتل کر دیں گے اور اس کا گدھا مال غنیمت میں لے جائیں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ اس کافر نے ہی اس مسلمان کو قتل کر دیا لہذا یہ "قتیل الحمار" گدھے کی راہ میں قتل ہوا ہے۔ (۲)۔

نیت کا خالص کرنا بہت نازک اور مشکل کام ہے۔ کبھی خدا کے علاوہ دوسری فکریں انسان کے دماغ میں اس طرح نفوذ کرتی ہیں کہ وہ خود بھی ان سے بے خبر رہتا ہے۔ لہذا روایت میں آیا ہے کہ ریا و شرک رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کی حرکت سے زیادہ دقیق و آہستہ ہے (۳) بہت سے لوگ اپنے خیال میں تو قربت خدا کا قصد کرتے ہیں لیکن حالات کے نشیب و فراز کے وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت سو فیصد خالص نہیں ہے۔

.....

- ۱۔ سورنہ دہر۔
- ۲۔ محجة البیضاء جلد ۸ صفحہ ۱۰۴۔
- ۳۔ بحار الانوار جلد ۷۲ صفحہ ۹۳۔

علامہ شہید مطہری کے بقول : نیت یعنی خود شناسی۔ عبادت کی قدر و قیمت معرفت و آگاہی سے ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے :

" نية المؤمن خیر من عملہ " (۱)

مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

جس طرح سے جسم و روح کے موازنہ میں روح، جسم سے زیادہ اہم ہے اور انسان کی انسانیت اس کی روح کی وجہ سے ہے ، نیت و عمل کے موازنہ میں بھی، نیت، عمل سے اہم ہے اس لئے کہ نیت روح عمل ہے۔ نیت اتنی اہم ہے کہ اگر انسان عمل خیر کو انجام نہ دے سکے لیکن کار خیر کی نیت رکھتا ہو کہ مثلاً فلاں کام کو کرے گا تو بھی خدا اس کو اجر دے گا۔ (۲)

قصد قربت

قصد قربت یعنی بارگاہ پروردگار سے قرب۔ مثلاً جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص حکومت کے فلاں بڑے عہدہ دار سے بہت نزدیک ہے تو سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے کہ اس کا مطلب مکانی اور جسمانی قربت نہیں ہوتی ورنہ اس کے نوکر اور خدمت کرنے والے سب سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں لہذا اس سے مکانی اور جسمانی قربت مراد نہیں ہے بلکہ معنوی ، مقام و مرتبہ اور اُنس کی قربت مراد لی جاتی ہے۔

پروردگار عالم کی خوشنودی کے لئے کسی کام کو انجام دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا وند عالم کے اوپر ہمارے کاموں کا اثر پڑتا ہے اور ان کاموں کی وجہ سے اس کی حالت بدل جائے، اس صورت وہ محل حوادث (جس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے) ہو جائے گا بلکہ خدائے تعالیٰ سے قربت کا مطلب یعنی وجود کے زینہ سے روح کا بلندی پر جانا ہے جس کے نتیجے میں انسان عالم ہستی

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ ۲۱۰۔

۲۔ محجة البيضاء جلد ۸ صفحہ ۱۰۴۔

میں تسلط اور نفوذ حاصل کرتا ہے یعنی سرچشمہ ہستی سے نزدیک ہوتا ہے اور اس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔

جس طرح سے وجود کے مراتب؛ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں مختلف ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان قرب خداوند کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ انسان میناتنی صلاحیت و استعداد ہے کہ وہ خدا سے اتنا قرب حاصل کر لے کہ اس کی بارگاہ کے مقرب ترین لوگوں میں قرار پا جائے اور زمین پر اس کا خلیفہ بن جائے۔

قربت کے قصد سے انجام پانے والی عبادت، انسان کو نورانی اور کامل تر بنا دیتی ہے اور اس کے وجود کی ظرفیت بڑھ جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ساری عبادتیں خصوصاً مستحبی نمازیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

" لا يزال العبد يتقرب الٰہ بالنوافل " (۱)

انسان مستحبی نمازوں کے ذریعہ خداوند عالم سے قریب ہوتا ہے۔ واجب نمازیں ممکن ہیں دوزخ کے ڈر سے یا خدا کے خوف سے پڑھی جائیں لیکن نافلہ نمازیں عشق کی نشانی اور معبود سے انس و محبت کی پہچان ہیں۔

تقرب الہی کے درجات

قرآن مجید میں لفظ " درجات " متعدد بار ذکر ہوا ہے اور مختلف تعبیروں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور اس میں کافی لطیف نکتے پائے جاتے ہیں۔ بعض کے لئے فرماتا ہے:

(لہم درجات) (۲)

ان کے لئے درجات ہیں۔

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۷۵ صفحہ ۱۵۵۔

۲۔ انفال ۴۔

بعض کے لئے ارشاد ہوتا ہے:

(ہم درجات) (۱)

وہ لوگ خود درجات ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی مجلس میں بزرگ شخصیات پیچھے بیٹھیں تو وہ جگہ صدر مجلس سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ یعنی درجہ و مقام انکو بلند نہیں کرتا بلکہ وہ لوگ خود اس درجہ کو مقام بخشنے والے ہیں۔

یہ معنوی درجہ بندی صرف انسانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ مراتب کا سلسلہ فرشتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے جناب جبرئیل کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے:

(مطاع ثم امین) (۲)

یعنی دوسرے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔

بہر حال خداوند عالم کی اطاعت کے اعتبار سے تمام انسانوں کے مراتب فرق رکھتے ہیں۔

(۱) کبھی انسان صرف مطیع ہے لیکن خدا کی رضا کے لئے نہیں۔

(۲) کبھی انسان اطاعت کے علاوہ خدا کا محب ہے یعنی خدائے تعالیٰ سے عشق و محبت کی بنیاد پر اطاعت کرتا ہے۔

(۳) کبھی انسان اطاعت و محبت سے بالا تر کامل معرفت کے ساتھ اطاعت کرتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے فقط خدا کو

دیکھتا ہے۔ حضرت علی - ارشاد فرماتے ہیں:

ما رأیت شیئاً الا و رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ " (۱)

.....
۱. آل عمران ۱۶۳. ۱- تکویر ۲۱ .
۲. تماشگہ راز صفحہ ۱۱۴ .

نماز کی تفسیر

خدا کو خدا کے لئے یاد کریں
کہتے ہیں کہ محمود غزنوی اپنے درباریوں کی وفاداری کو آزمانے کے لئے ایک قافلہ لیکر چلا . قافلہ کے ساتھ جواہرات سے بھرا ایک صندوق اونٹ پر لادا گیا . اس صندوق میں تالا نہیں لگایا گیا تھا . راستے میں جب ایک درّہ پر پہنچے تو اس نے صندوق سے لے کر اونٹ کو بھڑکا دیا تو صندوق پہاڑ کے درّے میں جا گرا اور سارے جواہرات بکھر گئے . سلطان نے کہا جو موتی جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اسی کا ہے . سارے درباریوں نے سلطان کو چھوڑ دیا اور جواہرات کے چکر میں دوڑ پڑے اسی وقت دیکھا کہ آیاز جواہرات کو چھوڑ کر سلطان کے پاس آیا . سلطان نے کہا تم کیوں جواہرات کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آئے ہو؟
آیاز نے جواب دیا :

منم در قفای تو می تاختم
ز خدمت بہ نعمت نیرداختم
ہم تمہارے پیچھے دیکھ رہے تھے لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑا مگر ہم نے نعمت کے بدلے خدمت انجام دی .
مولاناروم اس واقعہ کے نتیجہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں :

اگر از دوست چشمت بہ احسان اوست
تو در بند خویشی نہ در بند دوست

خلاف طریقت بود کاولیائی
تمنا کنند از خدا جز خدا

یعنی اگر تمہاری نگاہیں اپنے دوست کے کرم اور احسان پر ہوں تو تم اپنی (بوس) کی قید میں ہو نہ کہ دوست کی محبت کی قید میں، یہ راہ طریقت کے سراسر خلاف ہے کہ اولیائے خدا اس سے اس کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی تمنا کریں۔ جو لوگ خدا کو اپنے لئے یاد کرتے ہیں بنیاداً صرف مشکلات میں اس کی طرف رخ کرتے ہیں اس کے علاوہ خدا کو فراموش کر دیتے ہیں حتیٰ بعض اوقات خدا کا انکار بھی کر دیتے ہیں ؛ قرآن مجید نے ایسے افراد کی شدت سے مذمت کی ہے
- ارشاد ہوتا ہے :

(فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجا ہم الی البر اذا ہم یشرکون) (۱)
جس وقت کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی غرق ہونے لگتی ہے تو بڑے خلوص سے خدا کو پکارتے ہیں لیکن جیسے ہی خشکی میں قدم رکھتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں ۔
بہر حال جو کام بھی اپنے لئے کیا جائے وہ نفس پرستی ہے ۔ اگر لوگوں کے لئے کیا جائے وہ بت پرستی ہے ۔ اگر خدا اور مخلوق کے لئے ہو وہ دوگانہ پرستی ہے ۔ اور اپنا اور مخلوق کا کام خدا کے لئے انجام دینا یہ خدا پرستی ہے ۔ ہم حضرت

علی کی مناجات میں پڑھتے ہیں: " الہ ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک " (۲) خداوند! میری عبادت نہ دوزخ کے ڈر سے اور نہ جنت کی لالچ سے ہے بلکہ میری عبادت اس لئے ہے کہ مینے تجھ کو عبادت و بندگی کے لائق سمجھا لہذا میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ ہاں! یہ تاجر بینجو فائدہ کی وجہ سے کام کرتے ہیں اور یہ غلام ہیں جو ڈر کی بنا پر کام کرتے ہیں، مگر آزاد لوگ خدا کے شکر کے لئے اور اس کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ معصومین کے کلمات میں آیا ہے:

.....

۱۔ عنکبوت ۶۵۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۷ صفحہ ۱۸۶۔

" انّ قوما عبدوا اللہ رغبة فتلک عبادة التجار و انّ قوما عبدوا اللہ رهبة فتلک عبادة العبيد و انّ قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادة الاحرار " (۱)
بقول حافظ:

در ضمیر ما نمی گنجد بغیر از دوست کس
هر دو عالم را بہ دشمن دہ کہ ما را دوست بس

"ہمارا ضمیر دوست کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کرتا۔ دونوں جہاں دشمن کو دے دو ہم کو تو صرف اس کی دوستی ہی کافی ہے۔" دنیاوی اور مادی عشق میں انسان معشوق کو اپنے لئے چاہتا ہے اور معنوی عشق میں انسان اپنے کو معشوق کے لئے چاہتا ہے۔ حضرت علی - دعائے کمیل میں فرماتے ہیں: " و اجعل قلب بحبک متیما " پروردگار! میرے قلب کو اپنی محبت سے بھر دے۔"

تقرب الہی کے حصول کا راستہ

تقرب الہی کے حصول اور قصد قربت کے دو راستے ہیں: (۱) پروردگار کی عظمت و مقام کو پہچاننا۔ (۲) خداوند متعال کے علاوہ ہر چیز کی بے اعتباری اور کھوکھلے پن کو جاننا۔

قرآن مجید ہمیشہ خدا کے الطاف اور اس کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو اس کا محب بنائے۔ اس کی صفتوں کا ذکر، اس کی خلقت، اس کی مادی اور معنوی امداد، اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی اور بڑی نعمتوں کا تذکرہ یہ سب اس لئے ہیں کہ خدا سے ہمارے عشق و محبت کو زیادہ کریں۔

دوسری طرف کافی آیتوں میں خدا کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں کے ضعف اور ان کی بے مائیگی کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے " خدا کے علاوہ نہ کوئی عزت رکھتا ہے اور نہ قدرت، اگر سارے

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۱۴ صفحہ ۱۴۔

لوگ جمع ہوجائیں اور چاہیں کہ ایک مکھی خلق کریں تو نہیں کر سکتے! " خدا کے علاوہ کون ایسا ہے جو پریشان و درماندہ لوگوں کی فریاد کا جواب دے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خدا کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیں اور اس کو خدا کا ہم پلہ اور برابر قرار دیدیں؟

ایک واقعہ

عالم تشیع کے ایک مرجع تقلید، حضرت آية الله العظمیٰ آقا نے بروجردی تھے۔ آپ محرم کے زمانے میں اپنے گھر پر مجلس عزا کراتے تھے۔ ابھی ایام عزا ہی تھے کہ بیمار ہو گئے لہذا اپنے خصوصی کمرے میں لیٹے لیٹے مجلس کی آواز سن رہے تھے۔ مجلس میں شرکت کرنے والوں میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا کہ: امام زمانہ - اور آية الله بروجردی کی سلامتی کے لئے صلوات پڑھیں "

اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ آیۃ اللہ العظمیٰ بروجردی اپنے عصا سے دروازے کو پیٹ رہے ہیں ان کے قریب والے لوگ فوراً اندر گئے اور پوچھا۔ کیا کوئی حکم ہے؟ مرجع بزرگوار نے فرمایا: کیوں ہمارے نام کو امام زمانہ - کے ساتھ لیا؟ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے نام کو امام - کے نام کے ساتھ لو اور دونوں کے لئے صلوات پڑھو۔ (۱)

یہ دینی مرجع جو نائب امام زمانہ - ہیں راضی نہیں ہوئے کہ ان کا نام معصومین کے نام کے ساتھ لیا جائے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنی کج فہمی اور بد تہذیبی کا شکار ہیں کہ ضعیف اور حقیر مخلوق جو سراپا محتاج و نیاز مند ہے، اس کو خدائے قادر مطلق کے ساتھ لا کھڑا کرتے ہیں گویا وہ لوگ دونوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں -

۱۔ اس واقعہ کو آیۃ اللہ صافی مدظلہ نے نقل فرمایا ہے ۔

کیفیت یا مقدار؟

اسلام نے کام کی کیفیت پر زیادہ زور دیا ہے کہ کام کیسا ہے اس کا مقصد و ارادہ کیسا ہے - قرآن اچھے عمل کی تعریف کرتا ہے نہ کہ زیادہ عمل کی، ارشاد ہوتا ہے:

(لیلوکم ایکم احسن عملاً) (۱)

خدا تم کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل بجا لاتا ہے؟ حضرت علی - نے نماز کی حالت میں فقیر کو انگوٹھی دی - آپ کے اس اچھے عمل پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی - لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ وہ انگوٹھی بہت قیمتی تھی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی قیمت شامات اور سوریہ کے ٹیکس کے برابر تھی، جب کہ اتنی قیمتی انگوٹھی علی علیہ السلام کے زہد سے اور حضرت علی - کی عدالت سے بھی سازگار نہیں ہے کہ آپ اتنی قیمتی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھیں جب کہ کتنے ہی فقیروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت (اِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُوْنَ) (۲) کا نزول عمل کی کیفیت کی بنا پر ہے، اس کی مقدار اور قیمتی ہونے کی بنا پر نہیں۔ آپ کے عمل میں نیک قصد اور اخلاص تھا، نہ اس لئے کہ انگوٹھی کا وزن زیادہ تھا یا اس کی قیمت زیادہ تھی -

۱۔ بود ۷۔

۲۔ ماندہ ۵۵۔

یادگار واقعہ

بہلول نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد بنا رہے ہیں اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد خدا کی ہے - بہلول نے ایک پتھر پر لکھا کہ " اس مسجد کے بانی بہلول ہیں " - پھر اس پتھر کو رات میں صدر دروازے پر لے جا کر نصب کر دیا - دوسرے روز صبح جب مزدور کام کرنے آئے اور اس پتھر کو جس پر بہلول کا نام لکھا تھا دیکھا تو ہارون رشید سے جا کر ماجرا بیان کیا - ہارون رشید نے بہلول کو بلوایا اور پوچھا کہ: " مسجد ہم بنا رہے ہیں تم نے اسے اپنے نام کیوں کر لیا؟ " بہلول نے کہا کہ اگر تم خدا کے لئے مسجد بنا رہے ہو تو اس پر میرا نام رہنے دو اس لئے کہ خدا جانتا ہے کہ اس کا بنوانے والا کون ہے؟۔ خدا اجر و ثواب دینے میں دھوکہ نہیں کھاتا - اگر یہ مسجد خدا کے لئے ہے تو چاہے ہمارا نام ہو یا تمہارا نام ہو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے -

بہلول نے اپنے اس کام سے اس کو سمجھا دیا کہ اس کی نیت قربت کی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد شہرت اور نام و نمود ہے - اسی وجہ سے قرآن مجید کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دیتا ہے کہ جو دیکھنے میں پانی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے -

(و الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيْعَةٍ يَّحْسِبُهُ الظَّمَاْنُ مَاءً) (۱)

" جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے اعمال اس ریت کی مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو اور پیاسا اسے دیکھ کر اسے پانی تصور کرے۔ "

اصولاً اسلام اس عمل کو صالح سمجھتا ہے کہ جس کے چاروں عناصر ترکیبی نیک اور صحیح ہوں۔ یعنی عمل، جذبہ محرکہ، وسیلہ اور روش۔

.....

۱۔ نور ۳۹۔

قصد قربت، کام کے آغاز میں ہی ضروری نہیں ہے بلکہ کام کے آخر تک قصد قربت باقی رہنا ضروری ہے ورنہ عمل باطل ہے۔ اگر ہوائی جہاز کا انجن ایک منٹ کے لئے بھی خراب ہو جائے تو اس کا گرنا حتمی ہے۔ اسی طرح نیت میں شرک و ریا حتی اگر ایک لحظہ کے لئے بھی ہو ں پورے عمل کو نابود کر دیتے ہیں۔

ایک واقعہ

ایک ہوائی جہاز کے اڑنے کا وقت نزدیک تھا مگر اس کے سب مسافروں کو اتار دیا گیا۔ گھنٹوں اس کی اڑان میں دیر ہو گئی۔ ہم نے اس کی تاخیر کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے بتایا کہ جہاز میں ایک چوہا چلا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اتنی تاخیر ایک چوہے کی وجہ سے! کہا، ہاں اس لئے کہ ممکن ہے یہی چوہا کسی تار کو کاٹ دے اور جہاز کا کنٹرول سسٹم خراب ہو جائے اور کوئی حادثہ پیش آجائے۔

بہت سے نیک کام جو خدا کی طرف انسان کی پرواز کا سبب بنتے ہیں۔ ممکن ہے کسی ایک روحی مرض کی بناء پر انسان کو نہ صرف بلندیوں پر جانے سے روک دیں بلکہ ممکن ہے کہ انسان کے سقوط کا سبب بن جائیں۔

نیت؛ کام کو اہمیت دیتی ہے

فرض کریں ایک شخص نے دوسرے انسان کو ظلم و تجاوز کی نیت سے قتل کر ڈالا بعد میں معلوم ہوا کہ قتل ہونے والا انسان بھی ظالم و جابر تھا اس کو پھانسی دینا ضروری تھا۔ یہاں پر اگر چہ قتل کرنے والے کا کام مفید اور اچھا تھا لیکن پھر بھی لوگ اس قاتل کی تعریف نہیں کریں گے کیونکہ قتل کرنے والے کی نیت ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا تھی اور وہ "مفسد فی الارض" (فسادی انسان) کو قتل کرنے کی نیت نہیں رکھتا تھا۔

پس ایک کام کامفید ہونا اس بات کے لئے کافی نہیں کہ وہ عمل صالح بھی ہو بلکہ اس کے لئے عمل کے ساتھ ساتھ پاک نیت اور پاک قصد کی بھی ضرورت ہے۔

قرآن مجید ہر جگہ پر ہر کام میں قصد قربت پر زور دیتا ہے، چاہے خمس و زکات و خیرات مالی ہو اور چاہے دشمن سے جنگ و جہاد ہو، قرآن کریم ہمیشہ ان کلمات: (ف سبیل اللہ) (۱) (لوجہ اللہ) (۲) (ابتغاء مرضات اللہ) (۳) پر انحصار کرتا ہے۔ یہ قصد قربت کی اہمیت کی علامت ہے۔

جو لوگ مدرسہ، اسپتال، راستہ یا ہاسٹل تعمیر کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے مفید کام کرتے ہیں اگر قصد الہی نہ ہو تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس لئے کہ ایسے کاموں سے انہیں خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگرچہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

قرآن مجید ہمیشہ عمل صالح کو جو ایمان کے ساتھ لاتا ہے جیسا ارشاد ہے:

(الذین آمنوا و عملوا الصالحات)

یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

(مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ انْتَهَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (۴)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں صرف فعل کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ فعل انجام دینے والے کی نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔

.....

۱۔ بقرہ ۱۹۰۔

۲۔ انسان ۹۔

دو واقعات

(۱) بلال پیغمبر ﷺ اسلام کے مؤذن تھے یہ " اشد ان لا اله الا الله " میں " شین " کے بجائے " سین " کہتے تھے اس لئے کہ ان کی زبان لکنت کرتی تھی۔ لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ لیکن رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ : بلال کی سین خدا کے نزدیک شین ہے۔ (۱) اگرچہ ظاہری طور پر یہ عمل ناقص ہے لیکن قصد قربت اور حسن نیت کی بنا پر اجر کا حامل ہے۔

(۲) عبد اللہ بن مکتوم نابینا تھے اور رسول اکرم ﷺ کے بہت مخلص اور آپ کے چاہنے والے اصحاب میں تھے۔ ایک دن رسول اکرم ﷺ کچھ لوگوں سے گفتگو میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں عبد اللہ بن مکتوم وہاں آئے۔ عبد اللہ چونکہ نابینا تھے یہ لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے لہذا بلند آواز میں بات کرنے لگے۔ انہیں لوگوں میں سے ایک شخص نے انہیں نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور ناراض ہو گیا۔ اس اظہار نفرت اور ہنسے سے عبد اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ نابینا تھے۔ لیکن اس نفرت کرنے کی وجہ سے قرآن مجید کا ایک پورا سورہ نازل ہوا اور دس آیتوں میں اس مذاق اڑانے والے کو ڈانٹا (عبس و تولى ان جائى ه الا عمى و ما يدريك لعله يزكى) (۲)

پس کسی عمل کا مفید یا مضر ہونا معیار نہیں ہے کہ دوسروں سے اس کو تولا جائے اور کہا جائے کہ یہ عمل دوسروں کے لئے فائدہ مند ہے یا مضر ہے اور یہ کہ اگر یہ عمل دوسروں کو فائدہ دینے والا ہے تو وہ عمل صالح ہے اور اگر مضر ہے تو عمل غیر صالح ہے۔ بلکہ عمل اور اس عمل کو انجام دینے والے کے درمیان یہ رابطہ دیکھا جائے کہ اس نے اس کو کس مقصد کے تحت انجام دیا ہے؟ یعنی خود عمل ،

.....

۱۔ مستدرک الوسائل حدیث ۴۶۹۶۔

۲۔ سورہ عبس آیت ۱ سے ۱۰ تک۔

چاہے دوسروں کے لئے مفید یا مضر نہ ہو، مگر اس عمل کی نوعیت کیا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا۔

جی ہاں ! انبیاء کے مکتب میں اخلاق کی ذاتی اہمیت ہے نہ کہ عرضی ، جیسے کوئی گاہک کو اپنی طرف کھینچنے ، پیداوار کو زیادہ کرنے اور لوگوں کو اپنے قریب جمع کرنے والا کرتا ہے۔

سورئہ " عبس " میں اس پر بات تنقید ہوئی کہ کیوں نابینا سے نفرت کی اور اس کا مذاق اڑایا ؟ چاہے کہ نابینا تم کو نہیں دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ کسی مؤمن کا مذاق اڑانا (چاہے وہ نہ دیکھے) یہ ذاتا ایک بُری اور قبیح چیز ہے۔

بہر حال قصد قربت یعنی تمام کاموں کو الہی معیار پر انجام دینا اور عمل میں سیاسی و سماجی رد عمل اور دوسروں کی خوشامد کا پہلو نہ ہو۔

قصد قربت : یعنی عمل کو خدا کے لئے انجام دو لوگوں کی قیل و قال سے نہ ڈرو۔

قرآن مجید حقیقی مومنین کے لئے فرماتا ہے :

(يجاهدون ف سبيل الله و لا يخافون لومة لائم) (۱)

خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

قصد قربت : یعنی حق کہو خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو جیسا قرآن مجید الہی اور دینی تبلیغ کرنے والوں کی یونتعریف کرتا ہے :

(الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون احدا الا الله) (۲)

"وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے"۔

.....

۱۔ ماندہ ۵۴۔

نماز کی تفسیر

سرگزشت

ایک روز میں امام رضا - کے روضہ میں دعا و زیارت میں مشغول تھا۔ اور اس وقت میرے اوپر ایک خاص حالت طاری تھی - ایک زائر بھی میرے پہلو میں آکر بیٹھ گیا - چونکہ ٹیلی ویژن پر شب جمعہ میرا پروگرام آتا ہے ، اس کی وجہ سے وہ مجھے پہچان گیا - اس نے کچھ رقم مجھے دینا چاہی اور کہا کہ قرانتی صاحب ! یہ کسی فقیر کو دے دیجئے گا - میں نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح زائر ہوں۔ میں مشہد میں فقیر ونکو نہیں پہچانتا - تم خود ہی کسی فقیر کو دے دو - تھوڑی دیر گزری ، اس نے پھر اپنی اسی بات کی تکرار کی - میں نے دوبارہ وہی جواب دیا اور دعا پڑھنے میں مشغول ہو گیا - تیسری بار پھر اس نے اپنی بات کی تکرار کی - میں ناراض ہو گیا اور کہا کہ تم ۲۰ تومان کی وجہ سے میری توجہ تین بار دعاسے ہٹا چکے ہو۔ مہربانی کر کے خلل اندازی نہ کرو اور جاؤ تم خود ہی یہ رقم کسی فقیر کو دے دو - اس نے کہا کہ قرانتی صاحب ! یہ ۲۰ تومان نہیں بلکہ ۱۰۰۰ تومان ہیں -

میں جو ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص فقیر کے لئے ایک ۲۰ تومان کا نوٹ دے رہا ہے - میں نے تھوڑی دیر فکر کی تو میرا غصہ کافور ہو گیا - میں نے کہا کہ یہاں پر ایک ادارہ ہے جو یتیم بچوں کی مدد کرتا ہے - اس نے کہا کہ آپ خود اختیار رکھتے ہیں ، جہاں مصلحت سمجھیں وہاں خرچ کر دیں - اس نے یہ کہہ کر رقم میرے حوالے کی اور چلا گیا - میں نے دعا کی کتاب کو ایک طرف رکھا اور گہری فکر میں ڈوب گیا کہ اگر یہ خدا کے لئے ہے تو ۲۰ تومان اور ۱۰۰۰ میں فرق کیا ہے ؟ پھر مینمتوجہ ہوا کہ یہ واقعہ میری آزمائش کے لئے تھا تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ قصد قربت ابھی میرے اندر پیدائیں ہوا ہے -

اخلاص کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ انسان کسی کام کی مقدار ، افراد ، جگہ ، کام کی نوعیت و شرائط ، لوگ جانیں یا نہ جانیں ، حمایت کریں یا نہ کریں ، اس میں آمدنی ہو یا نہ ہو ، جیسی چیزوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں بلکہ فقط رضائے الہی ان کے مدنظر ہو -

البتہ انسان دوستی اور کسی کام کو لوگوں کے لئے انجام دینا خود پرستی سے بہتر ہے لیکن اس کا مقصد رضائے الہی نہ ہو تو خدا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے -

بقول شہید مطہری قصد قربت ذاتی اور اصلی شرط ہے نہ قراردادی و اعتباری ، یہ شرط تخلیقی ہے نہ تشریفی - (۱) اگر مکہ جانے کی شرط مکہ کے راستے کو طے کرنا ہے تو یہ شرط طبیعی و ذاتی ہے نہ کہ قراردادی۔ قرب الہی تک پہنچنے کی شرط قصد قربت ہے - یہ شرط بھی ذاتی اور اصلی ہے -

پاک نیت کے اثرات و برکات

آیات و روایات کی روشنی میں پاک نیت کے اثرات اور برکتیں کافی ہیں جن کو خلاصہ کے طور پر پیش کرتے ہیں :

(۱) جس کی نیت اچھی ہو اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے - (۲)

غالباً اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ اچھی نیت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اس کا کردار اور سلوک اچھا ہوگا - لہذا لوگ اس کی طرف زیادہ جذب ہونگے اور وہ جو بھی کام کرے گا وہ رونق پائے گا اس طرح اس کی آمدنی بھی زیادہ ہوگی -

(۲) حسن نیت سے انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے ، زندگی پاک و خوشگوار ہوتی ہے اور انسان کے دوست زیادہ

ہوتے ہیں (۳)

-
۱. ولایا و ولایت با ۲۹۰ سے ۲۹۳ تک .
 ۲. وسائل جلد ۱ صفحہ ۳۹ .
 ۳. غرر الحکم .

(۳) حسن نیت سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے جس نے حج تمام کر لیا اور وہ اپنے وطن جاتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگلے سال بھی آ کر حج کرے گا، پروردگار اس ارادہ کی بنا پر اس کی عمر طولانی کر دیتا ہے۔ (۱)

(۴) اچھی نیت انسان کی پچھلی کمیوں کو پورا کر دیتی ہے۔ حضرت علی۔ ارشاد فرماتے ہیں: اگر گنہگار حسن نیت سے توبہ کرے تو خداوند عالم نے جو بھی اس کے گناہ کی سزا کے بدلے میں اس سے لیا تھا اسے واپس کر دیتا ہے اور اس کے کاموں میں جو بھی مشکل درپیش ہو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔

(۵) پروردگار کار خیر کی نیت پر، کار خیر کی جزا عنایت کرتا ہے چاہے انسان اس کام کے انجام دینے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ نیت اگر سچی ہو تو کام انجام نہ پانے کی صورت میں بھی وہ عمل شمار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں بھی موجود ہے کہ اگر مومن یہ کہے کہ اگر خدا وسائل فراہم کرتا تو ہم یہ کرتے وہ کرتے اور یہ سچی آرزو ہو تو جن نیک کاموں کی اس نے نیت کی ہے پروردگار اسے ان کی جزا دے گا (۲) یہاں تک کہ اگر کوئی مخلصانہ طور پر شہادت کی نیت کرے اور خدا سے شہادت کی دعا کرے تو خدا اس کو شہیدوں کے درجات عنایت فرمائے گا چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ دنیا سے جائے۔ (۳)

خدا کا یہی لطف کیا کم ہے کہ وہ صرف نیت پر اس کام کی جزا اور ثواب دیدیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کی نیت کرے تو جب تک گناہ انجام نہ دے اس وقت تک اس کی سزا نہیں ملتی۔ (۴)

.....

۱. وسائل جلد ۸ صفحہ ۱۰۷ .
۲. وسائل جلد ۱ صفحہ ۴۰ .
۳. بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ ۲۰۱ .
۴. وسائل جلد ۱ صفحہ ۴۰ .

(۶) پاک نیت سے انسان کی زندگی کے ماڈی ترین کام اس کے لئے قربت خدا کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح معنوی ترین کام جیسے سجدہ و گریہ اگر ریا کاری کے ساتھ ہوں تو خدا سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جس طرح جسم، روح کی وجہ سے پائیدار ہے اسی طرح دین سچی نیت سبب استوار ہے (۱) پاک دل اور رحسن نیت خدا کے بہترین خزانوں میں سے ہے اور نیت جتنی اچھی ہوتی ہے اس خزانہ کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے (۲) نیت اور مصمم قصد و ارادہ انسان کی جسمانی قوت کو کئی گنا کر دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق۔ نے فرمایا:

پروردگار، روز قیامت لوگوں کو ان کی نیتوں کی بنیاد پر محسوس کرے گا (۳) جس کا مقصد صرف فریضہ کی ادا نیگی ہو اس کے لئے کام کی نوعیت اور اس کا نتیجہ اہم نہیں ہے۔

جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے:

(وَمَنْ يَقَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (۴)

اور جو بھی راہ خدا میں جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے یا غالب آجائے دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔

.....

۱. بحار الانوار جلد ۷۸ صفحہ ۳۱۲ .
۲. غرر الحکم .

جو چیز اہم ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد ہے لیکن اس کا نتیجہ ہار ہو یا جیت اس سے خدا کے اجر و ثواب پر اثر نہیں پڑتا ، دوسری جگہ پر قرآن مجید فرماتا ہے :

(و من ینزل من بیتہ مهاجرا الی اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ) (۱)

اور جو اپنے گھر سے خدا و رسول ﷺ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے گا اس کے بعد اسے موت بھی آجائے گی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے ۔

اس آیت سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان خدا کی خاطر گھر سے نکلے تو چاہے اپنے مقصد تک نہ پہنچ پائے لیکن وہ اجر رکھتا ہے ۔ کیونکہ اہم چیز عمل کی نیت ہے نہ خود عمل۔ اہم خدا کی راہ میں قدم بڑھانا ہے نہ کہ مقصد تک پہنچنا ۔

رسول خدا ﷺ ابوذر غفاری سے فرمایا :

کار خیر کا ارادہ کیا کرو چاہے اس کے بجا لانے کی توفیق حاصل نہ ہو کیونکہ یہ نیک کام کا ارادہ ہی تمہیں غافل لوگوں کے زمرے سے باہر نکالتا ہے (۲)

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے :

جو کام نیت الہی کے ساتھ ہو وہ کام بڑا ہے اگرچہ سادہ اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ۔ (۳)

جس طرح کوئی اہم کام اگر صحیح نیت کے ساتھ نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ۔ پیغمبر گرامی ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ : میری امت کے اکثر شہید اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو محاذ جنگ میں قتل ہوتے ہیں لیکن خدا ان کی نیت سے آگاہ ہے ۔ (۴)

.....

۱۔ نساء ۱۰۰۔

۲۔ وسائل جلد ۱ صفحہ ۸۷۔

۳۔ وسائل جلد ۱ صفحہ ۳۹۔ ۴۔ محجة البیضاء جلد ۸ صفحہ ۱۰۳۔

رسول اسلام ﷺ نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا :

جو لوگ مدینہ میں ہیں اور ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کی آرزو رکھتے ہیں وہ اپنی اس نیت کی بنا پر اس جنگ کے ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں ۔ (۱)

ایک دوسری روایت میں پڑھتے ہیں : جو شخص نماز شب کے لئے بیدار ہو نے کی نیت سے اپنے بستر پر لیٹے اگر نماز شب کے لئے بیدار نہ ہو پائے تو خداوند عالم اس کے سونے کو صدقہ اور اس کی سانسوں کو تسبیح (کے برابر) قرار دیتا ہے اور نماز شب کا ثواب اس کے لئے لکھا جاتا ہے ۔ (۲)

بلا وجہ ہمیں یہ تاکید نہیں کی گئی ہے حتیٰ سونے اور کھانے پینے میں بھی نیک مقصد پر نگاہ رکھیں۔ (۳) اگر کسی شخص کو خدا کی خاطر چاہو اور یہ خیال کرو کہ اچھا انسان ہے اگرچہ وہ دوزخی ہو لیکن تم کو اس کا اجر ملے گا ۔ (۴)

عمل پر نیت کی برتری

کسی بھی کام کی نیت اس کام کے اوپر جو برتری رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کام کے انجام دینے میں ریا کاری یا خود نمائی داخل ہو جائے لیکن نیت چونکہ قلب سے تعلق رکھتی ہے اس کا کوئی ظاہری اثر نہیں ہوتا لہذا نیت میں ریا کاری اور دکھاوے کی گنجائش نہیں ہے ۔

عمل پر نیت کی دوسری برتری یہ ہے کہ نیت ہمیشہ اور ہر مقام پر ممکن ہے نیز اس کے لئے کسی خاص شرط کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کسی کام کو انجام دینے کے لئے متعدد ضروریات اور بہت سے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے ۔

.....

۱. محجة البيضاء جلد ۸ صفحہ ۱۰۴۔
۲. بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ ۲۰۶۔
۳. وسائل جلد ۱ صفحہ ۳۵۔
۴. محجة البيضاء جلد ۴ صفحہ ۳۷۴۔

علم حدیث میں کچھ روایتیں "روایات من بلغ ... " کے نام سے مشہور ہیں۔ اس قسم کی روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کسی نے یہ روایت سنی کہ فلاں کام میں ثواب ہے اور اس شخص نے اس کام کو انجام دیا تو پروردگار اس کو اس کام کا اجر دے گا چاہے وہ روایت صحیح نہ ہو، اس لئے کہ اس نے اس حدیث پر جو عمل کیا ہے اسے اس نے حسن نیت سے انجام دیا ہے۔

نیت کے درجات

(۱) کبھی خدا کے غضب کا ڈر اور کبھی اس کے لطف و کرم کی لالچ انسان کو عمل کرنے کے لئے آگے بڑھاتی ہے، جیسا کہ اس بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے:

(أدعوه خوفاً وطمعاً) (۱)

خدا کو ہر حال میں یاد کرو چاہے وہ ڈر کا موقع ہو اور چاہے امید کا اور دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے:

(یدعوننا رغبا و رهبا) (۲)

ہم کو امید یا خوف کی حالت میں یاد کرتے ہیں۔

(۲) اس سے بالاتر مرحلہ وہ ہے کہ انسان اس کے الطاف کا شکر ادا کرنے کے لئے کام کرے چاہے اللہ کی طرف سے اس کام میں ثواب یا عذاب نہ ہو۔ جیسے حضرت علی فرماتے ہیں:

"لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب الا يعصى شكرا لنعتمه" (۳)

اگر پروردگار نے گناہوں پر عذاب کی دھمکی نہ دی ہوتی تب بھی انسان پر ضروری تھا کہ اس کی نعمتوں کے شکر کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کرے۔

.....

۱. اعراف ۵۶۔

۲. انبیاء ۹۰۔

۳. نہج البلاغہ حکمت ۲۹۰۔

(۳) ان سب سے بلند مرحلہ، خدا کی قربت ہے کہ انسان جنت کی امید اور دوزخ کے ڈر کے بغیر خدا کی عبادت کرے۔ اس لئے کہ صرف خدا کو عبادت و بندگی کے لائق سمجھتا ہے۔

(۴) اس سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کا عشق انسان کو ہر کام پر آمادہ کر دے۔ جیسے حضرت علی لقائے الہی اور موت سے اپنے عشق کو ایک شیر خوار بچے کی اپنی ماں کے پستان سے رغبت سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ (۱)

حضرت قاسم بن امام حسن مجتبیٰ - کربلا میں فرماتے ہیں:

"میرے لئے خدا کی راہ میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔"

سزا کے مسائل میں نیت کا اثر

اسلام نے سزا کے مسئلوں میں بھی قصد و نیت کا حساب و کتاب الگ رکھا ہے۔ اس سلسلے میں دو مثالوں کی طرف اشارہ کریں گے:

(۱) مسئلہ قتل: اگر کوئی شخص عمداً و قصداً کسی کو قتل کر دے اس کا حساب اس شخص سے جدا ہے جو بغیر قصد کے کسی قتل کا سبب بنے۔ اور ان دونوں کا حکم بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ (۲)

(۲) قرآن مجید قسم کے بارے میں فرماتا ہے:

(لا يؤاخذكم الله باللغو فإيمانكم) (۳)

خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا۔

لہذا اگر کوئی قسم کھائے اور اس نے اس کا قصد و ارادہ نہ کیا تو ایسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

۱۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۵۔

۲۔ نساء ۹۲۔

۳۔ بقرہ ۲۲۵۔

معرفت ؛ قصد قربت کا پیش خیمہ ہے

قصدِ قربت اور پاک نیت تک پہنچنے کا بہترین راستہ معرفت اور پہچان ہے -

اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ لوگوں کے نزدیک محبوبیت حاصل کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے - (۱)

اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ عزت و قدرت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے - (۲)

اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا فائدہ و نقصان کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے - (۳)

اگر ہمیں معلوم ہو کہ خدا کے لئے عمل بجا لانے سے کبھی دو گنا ، کبھی دس گنا اور کبھی ستر گنا اجر و ثواب ملتا ہے تو

اس کے غیر کے لئے کوئی کام نہ کریں گے -

اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ معاشرے میں اونچے مقام پر پہنچ جانے میں کوئی عظمت نہیں ، اس لئے کہ کالا دھواں بھی

اونچائی کی طرف جاتا ہے -

اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ لوگوں کی نظرا ور توجہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ، اس لئے کہ ایک ہاتھی سڑک پر چلتا ہے تو اس

کو بھی سب دیکھتے ہیں -

اگر ریاکاری کے خطرات اور رسوائی پر توجہ رکھیں -

اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک ایسا بھی دن آئے گا جب کوئی ایک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچے گا صرف وہ لوگ نجات

پائیں گے جو قلب سلیم رکھتے ہوں گے - (۴)

اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اپنی غلط نیت سے کتنے قیمتی اقدار اور امور کو کھو بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو قصد قربت اور

خالص نیت کے ساتھ عمل کرنے پر آمادہ کریں گے -

۱۔ ابراہیم ۳۷۔ ۲۔ بقرہ ۱۶۵۔

۳۔ مناجات شعبانہ۔

۴۔ شعراء ۸۹۔

غلط نیت کے اثرات

نیت کی بحث کے خاتمہ پر اس کی آفتوں کے بارے میں بھی اشارہ کرتے چلیں جیسا کہ سالم نیت کی برکتوں کے بارے میں

بھی اشارہ کر چکے ہیں -

(۱) دعا کا قبول نہ ہونا : امام سجاد - فرماتے ہیں : بری نیت دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ (۱)

اگر نیت خدا کے لئے نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ اس کام کو الہی رنگ و عبادت سے دور کرتی ہے بلکہ اگر نیت خراب ہو

تو وہ انسان کو خطروں سے بھی دو چار کرتی ہے - امام جعفر صادق - فرماتے ہیں : اگر کوئی شخص قرض لے اور اس کا

مقصد یہ ہو کہ اس کو ادا نہیں کرے گا تو وہ چور کے برابر ہے۔ (۲)

اسی طرح اگر کوئی شادی کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ مہر نہ دے گا تو خدا کے نزدیک وہ زنا کرنے والے کے برابر

ہے۔ (۳)

(۲) رزق سے محرومیت : امام صادق - ارشاد فرماتے ہیں : اگر مومن گناہ کی نیت کرے تو پروردگار اس کو رزق سے

محروم کر دیتا ہے -

اس حدیث کی حقیقی مثال ایک باغ کا قصہ ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں سورہ قلم آیت ۱۶ سے ۳۰ تک کچھ لوگوں کا واقعہ ہے جن لوگوں کے پاس ایک باغ تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے پھل چننے کے لئے رات میں جائیں تاکہ فقیروں کو خبر نہ ہو اور ان کو کچھ نہ دینا پڑے۔ سحر کے

۱۔ بحار الانوار جلد ۷۰ صفحہ ۳۷۵۔

۲۔ وسائل جلد ۱۲ صفحہ ۸۶۔

۳۔ وسائل جلد ۱۵ صفحہ ۲۲۔

وقت جب وہ باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ پہلے ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید وہ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص جو دوسروں کی نسبت زیادہ عقل مند تھا اس نے کہا: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایسی نیت نہ کرو۔ تم لوگوں نے فقیروں کو اس سے محروم کرنے کی نیت کی تو خدا نے تم کو ہی اس سے محروم کر دیا۔ قرآن کریم کے اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خدا، نیت کی بنیاد پر ہم لوگوں کو سزا دیتا ہے (۱)

اگرچہ یہ بات ایک کلی قاعدہ نہیں ہے۔

(۳) بری نیت شقاوت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

" من الشقاء فساد النية " (۲)

بری نیت سنگدلی کی علامت ہے۔

(۴) زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

" عند فساد النية ترتفع البركة " (۳)

جس کی نیت سالم نہیں ہوتی خدا اس سے برکت چھین لیتا ہے اور وہ خدا کی نعمتوں سے اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی سے کہا گیا کہ تمہارے فلاں اچھے کام کی بنا پر تمہاری تین دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ شخص خوش ہو گیا اس نے کہا خدایا ہماری بیوی کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت بنا دے۔ اس کی بیوی حسین ہو گئی۔ لیکن اس سے اس کی زندگی تلخ ہو گئی۔ اس لئے کہ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنی دوسری دعا سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ خدایا میری بیوی کو بدصورت ترین عورت کر دے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل تھا۔ لہذا اس نے اپنی تیسری دعا سے کام چلایا اور کہا خدایا میری بیوی کو پہلے کی طرح کر دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ اس کی بیوی اپنی پہلی حالت پر پلٹ گئی۔ اس نے اپنی تینوں دعاؤں کو استعمال کر ڈالا لیکن نتیجہ میں کچھ ہاتھ نہ لگا۔ یہ ہے برکت کے اٹھ جانے کا مطلب کہ انسان وسائل ہوتے ہوئے بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔

۱۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، میں نے ایک جنگی مجروح کو دیکھا جو ویل چئر wheel chair پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے نزدیک گیا۔ اسکا ماتھا چوما۔ وہ میرے عطر کی خوشبو کو سمجھ گیا اور مجھ سے کہا " عطر کی شیشی ہم کو دیدو " میں نے کہا: " میں تمہارے لئے عطر خرید کر لاؤں گا یہ شیشی میرے لئے رہنے دو۔ بہر حال عطر کی شیشی اس کو نہیں دی۔ اس سے رخصت ہوا۔ تھوڑی دیر بعد استیجاء کرنے گیا۔ وہ عطر کی شیشی لیٹرین کے اندر گر گئی۔ یکبارگی متوجہ ہوا کہ یہ سزا اس کنجوسی کی وجہ سے ملی ہے اسی جگہ پر اپنے اوپر رونے لگا جی ہاں قیامت کے دن یہ پشیمانی و حسرت ہوگی کہ خدا کے لئے کیوں نہ کوئی کام انجام دیا!

۲۔ غرر الحکم حدیث نمبر ۱۶۱۰۔

۳۔ غرر الحکم حدیث نمبر ۱۶۱۵۔

نماز کی تفسیر

تیسرا باب

تکبیرۃ الاحرام

اللہ اکبر

حجاج کرام کے اوپر سب سے پہلا واجب "لیبیک" کہنا ہے۔ اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کر کے وہ اعمال حج میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ان پر حرام ہو جاتی ہیں۔
 نماز بھی "اللہ اکبر" کہنے سے شروع ہوتی ہے اور نماز پڑھنے والے پر بھی کچھ چیزیں تکبیر کہتے ہی حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے کھانا، پینا، گفتگو کرنا، اسی لئے نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں حاجی حضرات پورے راستہ ہر بلندی یا پستی پر پہنچتے وقت اور ہر نشیب و فراز پر "لیبیک" کی تکرار کرتے ہیں اور یہ تکرار مستحب ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لئے بھی اٹھتے بیٹھتے یا جھکتے وقت مستحب ہے کہ "اللہ اکبر" کی تکرار کرے۔ اللہ اکبر صبح کا سب سے پہلا واجب کلمہ ہے۔
 تکبیر سب سے پہلا کلمہ ہے جس کو ہر مسلمان بچہ پیدا ہوتے ہی اذان و اقامت کے عنوان سے سنتا ہے اور یہ آخری کلمہ ہے جو مسلمان کی میت پر نماز میت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے۔
 صرف یہ ایک ایسا ذکر ہے جو نماز میں واجب بھی ہے اور نماز کا رکن بھی ہے۔
 یہ مسلمانوں کے ترانے یعنی اذان کا سب سے پہلا جملہ ہے۔
 یہ ایک ایسا ذکر ہے جو نماز سے پہلے اور نماز کے دوران اور تعقیبات میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح کہ ایک مسلمان ایک دن میں صرف پانچ وقت کی (واجب) نمازوں میں تقریباً ۳۶۰ مرتبہ اس کی تکرار کرتا ہے۔
 جس کی تفصیل یہ ہے:

- ۱) پانچ وقت کی نمازوں کے لئے پانچ مرتبہ اذان کہے اور ہر اذان میں ۶ مرتبہ "اللہ اکبر" کہے (کل ۳۰ مرتبہ)
- ۲) پانچ وقت کی نمازوں کو اقامت سے شروع کرے اور ہر اقامت میں ۴ مرتبہ "اللہ اکبر" کہا جاتا ہے (کل ۲۰ مرتبہ)
- ۳) پانچ وقت کی ہر نماز میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے چھ تکبیریں مستحب ہیں اور ساتویں تکبیر وہی تکبیرۃ الاحرام ہے جو واجب ہے (کل ۳۰ مرتبہ)
- ۴) نماز کے شروع میں تکبیرۃ الاحرام کے طور پر پانچ نمازوں کی ۵ تکبیریں۔
- ۵) ۱۷ رکعتوں میں ہر رکوع سے پہلے ایک تکبیر (کل ۱۷ تکبیریں)
- ۶) ۱۷ رکعتوں میں ہر رکعت میں دو سجدہ ہیں ہر سجدے میں دو تکبیریں ہیں۔ ایک سجدہ سے پہلے اور ایک سجدہ کے بعد (کل ۶۸ تکبیریں)
- ۷) ہر نماز میں ایک قنوت ہے ہر قنوت سے پہلے ایک تکبیر مستحب ہے (کل ۵ تکبیریں)
- ۸) ہر نماز پنجگانہ کے آخر میں ۳ تکبیریں مستحب ہیں۔ (کل ۱۵ تکبیریں)
- ۹) ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کے عنوان سے ۳۴ مرتبہ تکبیر کہتے ہیں۔ (کل ۱۷۰ تکبیریں)
- لیکن افسوس ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں ایک بار بھی توجہ کے ساتھ "اللہ اکبر" نہیں کہا۔
- اگر انسان مکمل ایمان اور پوری توجہ کے ساتھ ہر روز ۳۶۰ مرتبہ سے زیادہ کہے کہ: اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کی کسی قدرت، سپر پاور اور سازش سے نہیں ڈرے گا۔

دوسری نمازوں میں تکبیر

عید فطر و عید قربان کی صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ ان نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد بھی تمام دعاؤں میں تکبیریں ہیں۔
 نماز آیات میں ۵ رکوع ہیں اور ہر رکوع کے لئے تکبیر وارد ہوئی ہے۔ نماز میت مینتو ۵ تکبیریں رکن نماز ہیں۔

نماز میں کس طرح سے تکبیر کہیں؟

اسلام نے ہر کام کے لئے کچھ آداب اور اصول بیان کئے ہیں۔ "اللہ اکبر" کہتے وقت بھی کچھ آداب کی رعایت ہونی چاہئے

- ان میں سے بعض یہ ہیں :
- (۱) نماز میں تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھ کان تک بلند کریں ، اس طرح سے کہ ہاتھ جب کان تک پہنچیں تو تکبیر ختم ہو جانی چاہئے۔ امام رضا - نے فرمایا : ہاتھوں کی حرکت؛ حضور قلب اور خدا کی طرف توجہ میں اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱)
- (۲) ہاتھ کی انگلیاں تکبیر کے وقت آپس میں چپکی ہوئی ہوں اور اوپر کی طرف اٹھیں۔
- (۳) ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔
- روایتوں میں تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنے کو نماز کی زینت کہا گیا ہے۔ (۲)

تکبیر کے معانی

- اللہ اکبر : یعنی خدا تمام حسی ، ذہنی ، ملکی اور ملکوتی موجودات سے بڑا ہے۔
- اللہ اکبر : یعنی خدا اس سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی اسکی تعریف کر سکے۔

.....

۱۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۷۲۷۔

۲۔ بحار جلد ۸۴ صفحہ ۳۵۱۔

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
و زہر چہ گفتم ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

مجلس تمام گشت و بہ پایان رسید عمر
ما همچنان در اول وصف تو ماندہ ایم

یعنی خدا ہر خیال و قیاس اور گمان سے بڑا ہے نیز ہم نے جو بھی کہا ، سنا اور پڑھا ، وہ ان سب سے بھی بڑا ہے ، مجلس ختم ہوگئی اور عمر بھی آخر کو پہنچی لیکن خدا کی تعریف کی ابھی شروعات ہی ہے۔

امام جعفر صادق - فرماتے ہیں کہ جس وقت تکبیر کہو ، تو خدا کے علاوہ تمام چیزیں تمہاری نظر میں چھوٹی ہو جانی چاہئیں۔ (۱) ایسا نہ ہو کہ انسان منہ سے تکبیر کہے اور دل کسی اور سے لگا ہو۔ ایسا کرنے والا جھوٹا اور بہانے باز ہے اسی وجہ سے خدا اپنے ذکر کی لذت اس سے چھین لیتا ہے۔

تکبیر ، اسلامی تمدن میں

نہ فقط نماز بلکہ بہت سارے حساس مقامات پر اللہ اکبر کہنا وارد ہوا ہے۔ لہذا صدر اسلام میں مسلمان ہر سختی اور خوشی کے موقع پر تکبیر کہتے تھے۔ ہم ان میں سے چند واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں :

(۱) جنگ خندق میں ، خندق کھودتے وقت مسلمانوں کے سامنے ایک مضبوط پتھر آیا جس کدال (گینتی) سے پتھر توڑ رہے تھے وہ خود ٹوٹ گیا لیکن پتھر نہیں ٹوٹا، رسول اکرم ﷺ تشریف لائے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ میں پتھر کو توڑ دیا۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ تکبیر کہی اور اس جگہ پر رسول ﷺ اسلام نے فرمایا کہ : میں نے اس پتھر سے اٹھنے والی چنگاریوں میں روم و ایران کے قلعوں کو

.....

۱۔ سر الصلاة صفحہ ۲۸۔

گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱)

(۲) جنگ صفین میں حضرت علی - جب کسی کو قتل کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ مسلمان آپ کی تکبیروں کو گن کر پتہ لگاتے تھے کہ آپ نے کتنے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ (۲)

(۳) جس رات حضرت فاطمہ زہرا کو حضرت علی بن ابی طالب - کے گھر لے جا رہے تھے تو تکبیر کہتے ہوئے ستر بزار فرشتے زمین پر نازل ہوئے - (۳)

(۴) پیغمبر اسلام ﷺ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر چالیس تکبیریں (۴) اور اپنے چچا حضرت حمزہ کے جنازے پر ستر تکبیریں کہیں۔ (۵)

(۵) حج کے اعمال میں مستحب ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری پھینکتے ہوئے تکبیر کہی جائے۔ (۶)

(۶) حضرت زہرا کی تسبیح میں ، جس کا ثواب ہزار رکعت مستحبی نماز ونکے برابر ہے ، ۳۴ مرتبہ تکبیر آئی ہے۔ (۷)

(۷) رسول اکرم ﷺ جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ ﷺ کی زبان مبارک پر آیا وہ اللہ اکبر تھا۔ (۸)

(۸) جس روز مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا ، رسول اسلام ﷺ مسجد الحرام میں داخل ہوئے ، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا اور تکبیر کہی ، آپ کے ہمراہ مسلمانوں نے بھی بلند آواز میں ایسی تکبیر کہی کہ مشرکین کے دل دہل گئے۔ (۹)

-
- ۱۔ بحار جلد ۲۰ صفحہ ۱۹۔
 - ۲۔ بحار جلد ۳۲ صفحہ ۶۰۔
 - ۳۔ بحار الانوار جلد ۴۳ صفحہ ۱۰۴۔
 - ۴۔ بحار جلد ۳۵ صفحہ ۷۰۔
 - ۵۔ بحار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۶۳۔
 - ۶۔ بحار الانوار جلد ۱۱ صفحہ ۱۶۸۔
 - ۷۔ بحار الانوار جلد ۱۵ صفحہ ۲۶۸۔
 - ۸۔ بحار الانوار جلد ۱۵ صفحہ ۲۷۳۔
 - ۹۔ تفسیر نمونہ جلد ۲۷ صفحہ ۴۰۷۔

(۹) روایتوں میں ہے کہ جس وقت کوئی تعجب آور چیز دکھائی دے تو تکبیر کہو (۱)

(۱۰) جنگ اُحد میں کفار کی فوج کے ایک پہلوان نے اپنا مدّ مقابل چاہا۔ حضرت علی - آگے بڑھے اور اسے ایسی ضربت ماری کہ پیغمبر اسلام ﷺ اور تمام مسلمانوں نے بلند آواز میں تکبیر کہی۔ (۲)

(۱۱) پیغمبر اکرم ﷺ نے حضرت علی - سے فرمایا : ہر وقت چاند یا آئینہ دیکھو یا کوئی مشکل پیش آئے تو تین مرتبہ تکبیر کہو۔ (۳)

(۱۲) امام سجاد - کے بیٹے جناب زید نے بنی امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کیا تو ان کا نعرہ ہی اللہ اکبر تھا۔ (۴)

(۱۳) جنگ بدر میں رسول اسلام ﷺ دشمن کے سرداروں میں سے نوفل نام کے ایک سردار کی ہلاکت کے انتظار میں تھے ، اتنے میں خبر پہنچی کہ حضرت علی - نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اسلام ﷺ نے تکبیر کہی۔ (۵)

(۱۴) جس وقت حضرت علی - حضرت زہرا سے شادی کے سلسلے میں تشریف لائے تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا : ٹھہرو ہم اپنی بیٹی فاطمہ کے سامنے اس مسئلہ کو رکھیں۔ لیکن حضرت زہرا خاموش رہیں اور آپ ﷺ نے کچھ نہ کہا تو پیغمبر گرامی ﷺ نے فرمایا "اللہ اکبر سکوتھا اقرارھا" (۶)

(۱۵) خوارج سے جنگ میں جب ان کا سپہ سالار ہلاک ہوا تو حضرت علی - نے تکبیر کہی

-
- ۱۔ بحار الانوار جلد ۹۲ صفحہ ۱۲۷۔
 - ۲۔ بحار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۱۲۶۔
 - ۳۔ بحار الانوار جلد ۹۲ صفحہ ۱۲۷۔
 - ۴۔ کتاب زید بن علی - صفحہ ۱۸۶۔
 - ۵۔ بحار الانوار جلد ۱۹ صفحہ ۲۸۱۔
 - ۶۔ بحار جلد ۴۳ صفحہ ۹۳۔

اور سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے تکبیر کہی۔ (۱)

(۱۶) یہودیوں کا ایک گروہ مسلمان ہوا۔ ان لوگوں نے پیغمبر ﷺ سے کہا کہ سابقہ انبیاء کے جانشین تھے آپ کا وصی کون

ہے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی " ایمان والو بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں "۔ (۲)

رسول اسلام ﷺ فرمایا کہ مسجد کی طرف چلیں۔ جس وقت آپ مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو خوشحال ہے اور حضرت علیؓ نے رکوع کی حالت میں اس کو انگوٹھی دی ہے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے تکبیر کہی۔ (۳)

(۱۷) ائمہ % کے روضہ میں داخل ہوتے وقت تکبیر کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم زیارت جامعہ پڑھنے سے پہلے تین مرحلوں میں ۱۰۰ مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں۔ مرحوم مجلسی کے بقول ان تکبیروں کے پڑھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ائمہ % کے سلسلے میں زیارت جامعہ کے جملوں سے تم غلو میں نہ پڑ جاؤ۔ (۴)

(۱۸) حضرت علیؓ نے اپنے فیصلوں میں جب مجرم کا پتہ لگا لیتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ (۵)

(۱۹) میثم تمار جو حضرت علیؓ کی محبت میں ابن زیاد کے حکم سے سولی پر چڑھائے گئے اور نیزے سے ان پر حملہ کیا گیا، شہادت کے وقت جناب میثم کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ تکبیر کہہ رہے تھے۔ (۶)

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۴۱ صفحہ ۳۴۱۔

۲۔ مانند ۵۵۔

۳۔ بحار الانوار جلد ۳۵ صفحہ ۱۸۳۔

۴۔ بحار الانوار جلد ۱۶ صفحہ ۹۹۔

۵۔ بحار الانوار جلد ۴۰ صفحہ ۲۶۰۔

۶۔ بحار الانوار جلد ۴۲ صفحہ ۱۲۵۔

(۲۰) شب معراج پیغمبر اکرم ﷺ پر آسمان سے گزرتے وقت تکبیر کہہ رہے تھے۔ (۱)

(۲۱) حضرت جبرئیل رسول اکرم ﷺ کے پاس تھے، حضرت علیؓ نے داخل ہوئے۔ جبرئیل نے کہا: اے محمد! اس خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبری کے لئے منتخب کیا، علیؓ کو آسمانوں کے لوگ زمین کے لوگوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ جس وقت علیؓ جنگوں میں تکبیر کہتے ہیں ہم فرشتے بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں۔ (۲)

(۲۲) جنگ خیبر میں جس وقت مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہوئے، تو وہ ایسی تکبیر بیکہ رہے تھے کہ یہودی بھاگ کھڑے ہوئے۔ (۳)

.....

۱۔ بحار الانوار جلد ۸۶ صفحہ ۲۰۷۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۳۹ صفحہ ۹۸۔

۳۔ پیامبری و حکومت صفحہ ۱۴۶۔

نماز کی تفسیر

چوتھا باب

سورنہ حمد

تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد سورنہ حمد پڑھنا ضروری ہے اور اگر نماز میں یہ سورہ نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " (۱)

اس سورہ کا دوسرا نام فاتحۃ الكتاب ہے اس لئے کہ قرآن کریم اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ میں سات آیتیں ہیں۔ (۲) جابر بن عبد اللہ انصاری کی روایت کے مطابق رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: قرآن کے سوروں میں سب سے بہترین سورہ، سورہ حمد ہے۔ (۳)

صرف سورنہ حمد ایک ایسا سورہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر روز کم از کم دس مرتبہ اپنی پنجگانہ نمازوں میں اس کو پڑھے۔ اس سورہ کی اہمیت میں اتنا کافی ہے کہ روایتوں میں آیا ہے اگر ستر مرتبہ اس کو مردہ پر پڑھو اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ (۴)

اس سورہ کا نام فاتحۃ الكتاب رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں تمام آیتوں کو جمع کر کے کتاب کی شکل دی گئی ہے اور آپ ﷺ کے حکم سے اس سورہ کو کتاب کے شروع میں رکھا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ حمد کی آیتیں، خدا اور اس کے صفات، قیامت، راہ حق پر چلنے کی درخواست؛ خداوند عالم کی حاکمیت و ربوبیت کے قبول کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم اس سورہ میں اولیائے خدا کے راستے پر چلنے کا شوق، اور گمراہوں نیز جن پر غضب الہی

.....

- ۱۔ مستدرک الوسائل حدیث ۴۳۶۵۔ ۲۔ سات کا عدد: آسمان سات ہیں، ہفتہ کے دن سات ہیں، اسی طرح طواف، صفا اور مروہ کے درمیان سعی (کے چکر)، نیز شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان سب کی تعداد سات ہے۔
- ۳۔ تفسیر کنز الدقائق۔
- ۴۔ بحار الانوار جلد ۹۲ صفحہ ۲۵۷۔

نازل ہوا ان سب سے نفرت و بیزاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورنہ حمد شفاء کا ذریعہ ہے، جسمانی درد کی بھی شفاء اور روحانی بیماریوں کی بھی شفاء۔ مرحوم علامہ امینی نے اس موضوع پر اپنی کتاب "تفسیر فاتحۃ الكتاب" میں کافی روایتیں نقل کی ہیں۔

سورنہ حمد میں تربیت کے سبق

- ۱) انسان سورنہ حمد میں (بسم اللہ) کہنے کے بعد غیر خدا سے امید ختم کر دیتا ہے۔
- ۲) (رب العالمین) و (مالک یوم الدین) کہنے والا، خدا کا بندہ اور مملوک و مرہوب ہونے کا احساس کرتا ہے۔
- ۳) انسان کلمہ (رب العالمین) سے اپنے اور عالم ہستی کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔
- ۴) (الرحمن الرحیم) سے اپنے کو اس کے وسیع لطف کے سایہ میں دیکھتا ہے۔
- ۵) (مالک یوم الدین) سے قیامت سے غافل نہیں رہتا ہے۔
- ۶) (ایک نعبد) سے خود خواہی و شہرت طلبی سے دور ہو جاتا ہے۔
- ۷) (ایک نستعین) سے خدا کے علاوہ دوسروں سے مدد حاصل کرنے کی فکر میں نہیں پڑتا۔
- ۸) (انعمت علیہم) کے بعد یہ سمجھ جاتا ہے کہ نعمتوں کی تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے لہذا حسد سے الگ رہنا چاہیئے کہ حسد کرنے والا خدا کی روزی کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔
- ۹) انسان (اهدنا الصراط المستقیم) کہہ کر راہ حق پر چلنے کی درخواست کرتا ہے۔
- ۱۰) انسان (صراط الذین انعمت علیہم) کے ذریعہ خدا کے پیروکاروں سے دلہستگی اور ہم دلی کا اعلان کرتا ہے۔
- ۱۱) اور آخر میں (غیر المغضوب علیہم و لا الضالین) سے باطل اور راہ باطل سے نفرت و بیزاری کرتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مختلف قوموں اور لوگوں کے درمیان یہ رسم ہے کہ لوگ اپنے اہم کاموں کو اپنے ان بزرگوں کے نام سے شروع کرتے

ہیں ، جن کا وہ احترام کرتے ہیں اور ان سے رغبت رکھتے ہیں ، تاکہ وہ کام مبارک و با برکت ہو جائے اور بخوبی انجام تک پہنچے ۔

البتہ ہر شخص اپنے صحیح یا غلط عقیدہ کے تحت عمل کرتا ہے ۔ بعض لوگ بت یا طاغوت کے نام سے اور بعض لوگ خدا کے نام سے اور اولیائے خدا کے ہاتھوں سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں ۔ جیسا کہ آج کل رسم ہو گئی ہے کہ اہم عمارت کی بنیاد کے لئے پہلا پہاؤڑا کوئی اہم شخص مارتا ہے (۔)۔ جنگ خندق میں خندق کو کھودنے کے لئے سب سے پہلا پہاؤڑا رسول اکرم ﷺ نے زمین پر مارا تھا ۔

بسم اللہ : بسم اللہ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے ۔

بسم اللہ : صرف قرآن کریم کے شروع میں ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے شروع میں تھا۔

بسم اللہ : تمام انبیاء کے اعمال کی شروعات ہے ۔ جس وقت جناب نوح - کی کشتی طوفان کی موجوں کے درمیان چلی تو حضرت نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا سوار ہو جاؤ (بسم اللہ مجریہا و مرسیہا) (۲) کشتی کا چلنا اور رکنا خدا کے نام سے ہے ۔

.....

۱۔ یہ ایران کی رسم ہے جبکہ ہمارے یہاں اس کے بجائے عمارت کا سنگ بنیاد رکھوایا جاتا ہے۔ (مترجم)
۲۔ بودا ۴۱۔

حضرت سلیمان - نے جب ملکہ سبا کو خدا کی طرف دعوت دی تو اپنے خط کو (بسم اللہ الرحمن الرحیم) کے جملہ سے شروع کیا ۔

حضرت علی - نے فرمایا کہ (بسم اللہ) برکت کی بنیاد ہے ۔ اگر اس کو نہ کہا جائے تو کام کی عاقبت بخیر نہیں ہوتی ۔ (۱) اسی طرح ایک شخص (بسم اللہ) لکھ رہا تھا آپ نے فرمایا " جوڈھا " اس کو خوبصورت طریقہ سے لکھو ۔ (۲) ہر کام شروع کرنے سے پہلے (بسم اللہ) کہنے کی تاکید کی گئی ہے جیسے کھانا، سونا ، سواری پر سوار ہونا ، نکاح و ہمبستری اور اس کے علاوہ دوسرے تمام کام حتی اگر جانور کو بغیر (بسم اللہ) کے ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے ۔ یہ اس بات کا راز ہے کہ توحید پرست انسان کی خوراک الہی مقصد رکھتی ہو ۔

کیوں ہر کام کو (بسم اللہ) سے شروع کریں ؟

جس طرح سے ایک کارخانہ کی بنی ہوئی چیزوں پر اس کی ایک مخصوص علامت " ٹریڈ مارک " ہوتی ہے مثلاً چینی کے برتن بنانے والا کارخانہ تمام برتنوں پر اپنا نشان لگاتا ہے ، چاہے چھوٹے برتن ہوں یا بڑے یا ہر ملک اپنا مخصوص جھنڈا رکھتا ہے جو گورنمنٹ کی عمارتوں، پولیس اسٹیشنوں اور فوجی مراکز پر لہراتا ہے ۔ یہ جھنڈا پانی کے جہاز پر بھی ہوتا ہے اور سرکاری میزوں پر بھی۔

اسی طرح خدا کا نام اور اس کی یاد بھی ہر مسلمان کی علامت ہے اور جملہ (بسم اللہ)

.....

۱۔ بحار جلد ۷۶ صفحہ ۳۸۵۔

۲۔ کنز العمال حدیث ۲۹۵۵۸۔

مسلمان کی علامت اور پہچان ہے اور ہر کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر جگہ چاہے وہ مسجد ہو یا فیکٹری ، ہر وقت چاہے صبح ہو یا شام یہ مبارک کلام ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہے ۔

اسی لئے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ (بسم اللہ) کو فراموش نہ کرو حتی ایک شعر لکھنے میں بھی اور جو شخص پہلی بار بچہ کو (بسم اللہ) سکھا تا ہے اس کے ثواب کے سلسلے میں بھی کافی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ۔ (۱)

کیا (بسم اللہ الرحمن الرحیم) سورنہ حمد کا جز اور ایک مستقل آیت ہے ؟ اگر چہ بعض لوگوں نے (بسم اللہ) کو سورہ کا جز نہیں سمجھا یا نماز میں اس کو ترک کیا ہے لیکن مسلمانوں نے ان پر اعتراض کیا جیسا کہ ایک روز معاویہ نے نماز میں (بسم اللہ) کو نہیں پڑھا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا " اسرقت ام نسیت؟ " تم نے آیت کی چوری کی ہے یا

بھول گئے ہو؟ (۲)

فخر رازی نے اپنی تفسیر میں ۱۶ دلیلیں پیش کی ہیں کہ (بسم اللہ) سورئہ حمد کا جز ہے۔ اَلوسى بھی اپنی تفسیر میں یہی نظر یہ رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں کہ (بسم اللہ) سورئہ حمد کا جز ہے۔ اہل بیت رسول اللہ جنکا دور اہل سنت کے فقہی اماموں سے سو سال پہلے شروع ہوا ہے، جو راہ خدا میں شہید ہو گئے اور قرآن میں ان کی عصمت و طہارت کی تصریح ہوئی ہے ان کا نظریہ، یہ ہے کہ جملہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم) ایک مستقل آیت اور سورہ کا جز ہے۔ ائمہ معصومین % ہمیشہ یہ اصرار کرتے تھے کہ نماز میں (بسم اللہ) بلند آواز میں کہی جائے۔ امام محمد باقر نے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز میں (بسم اللہ) نہیں پڑھتے

۱۔ تفسیر برہان جلد ۱ صفحہ ۴۳۔

۲۔ مستدرک حاکم جلد ۳ صفحہ ۲۳۳۔

تھے یا اسے سورہ کا جز نہیں سمجھتے تھے ارشاد فرمایا "سرقوا اکرم آية" (۱) انہوں نے قرآن کریم کی بہترین آیت کی چوری کی ہے۔ علامہ شہید مطہری نے سورئہ حمد کی تفسیر میں ابن عباس، عاصم، کسائی، ابن عمر، ابن زبیر، عطاء، طاؤس، فخر رازی اور سیوطی کے نام ان لوگوں کی فہرست میں ذکر کئے ہیں جو (بسم اللہ) کو سورہ کا جز سمجھتے ہیں۔ البتہ سورہ برائت (سورہ توبہ) کی ابتدا میں (بسم اللہ) نہیں آئی ہے۔ حضرت علی کے ارشاد کے مطابق اس لئے نہیں آئی کہ (بسم اللہ) امان و رحمت کا کلمہ ہے جو مشرکین سے اعلان برائت میں مناسب نہیں ہے۔ بسم اللہ: رنگ الہی کی پہچان ہے اور ہمارے توحیدی انداز کا بیان ہے۔ بسم اللہ: توحید کی علامت ہے اور دوسروں کا نام کفر کی علامت ہے اور خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ہو تو یہ شرک کی علامت ہے۔ نہ تو خدا کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام پکارو اور نہ ہی خدا کے نام کے بجائے کسی دوسرے کا نام لو۔ (سیح اسم ربک) کے یہی معنی ہیں کہ حتیٰ خدا کا نام بھی ہر شرک سے پاک رہے۔ بسم اللہ: بقاء و دوام کی علامت ہے جس میں خدا کا نام نہ پایا جائے وہ فنا ہونے والا ہے۔ (۲) بسم اللہ: خدا سے عشق اور اس پر توکل کا راز ہے۔ بسم اللہ: تکبر سے دوری کی علامت ہے اور خدا کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے۔ بسم اللہ: اپنے کاموں کو خدا کے نام کے ذریعے محفوظ کر لینے کا راز ہے۔

۱۔ مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۱۷۷، و جلد ۴ صفحہ ۸۵۔

۲۔ (کن شیبی ہالک الأ وجہ) قصص ۸۸۔

بسم اللہ: اپنے کاموں کو تقدس بخشنے کا راز ہے۔ بسم اللہ: خدا کا ذکر اور اس کو ہمیشہ یاد کرنے کا راز ہے کہ خدایا! ہم تجھے کسی بھی حال میں فراموش نہیں کریں گے۔ بسم اللہ: انسان کے ہدف و مقصد کو بیان کرنے والی آیت ہے کہ پروردگارا! تو ہی میرا مقصود ہے، میرا مقصد نہ لوگ ہیں، نہ دنیا اور نہ بوس ہے۔ بسم اللہ: یعنی صرف اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں نہ دوسروں سے۔ بسم اللہ: یہ بیان کرتی ہے کہ سورہ کے مطالب و مفاہیم بارگاہ حق تعالیٰ اور مظہر رحمت سے نازل ہوئے ہیں۔

لفظ اللہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ "الہ" سے نکلا ہے اس کے معنی "عبد" ہیں اور اللہ یعنی وہ معبود واقعی اور وہ ہستی جو

تمام کمالات کی حامل ہو لیکن بعض نے کہا ہے کہ لفظ اللہ "وَلَّه" سے نکلا ہے یعنی دل دے بیٹھنا ، عشق ، حیرت ۔ پس اس لحاظ سے اللہ! یعنی ایسی مقدسات کہ جس کی جاذبیت نے سب کو متحیر اور اپنا فریفتہ کر لیا ہو ۔ اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ کلمہ " خدا " یا " خداوند " اللہ کا کامل ترجمہ نہیں ہے اس لئے کہ خدا اصل میں " خود آئی " تھا جس کا استعمال فلسفہ میں واجب الوجود کی بحث میں کیا جاتا ہے اور کلمہ "خداوند " کے معنی "صاحب" ہے ۔ جیسا کہ ادبیاتِ فارسی میں کہتے ہیں " خداوند خانہ " یعنی صاحب خانہ۔

یہ بات واضح ہے کہ صاحب یا واجب الوجود " اللہ " کے کامل معنی نہیں ہیں بلکہ " اللہ " یعنی ایک ایسی ذات جو عشق و عبادت کے لائق ہو اس لئے کہ اس میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں۔

قرآن مجید میں خدا کے تقریباً سو نام آئے ہیں ان میں سے " اللہ " سب سے جامع ہے ۔ اصولی طور پر خدا کے سارے نام اس کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں نہ یہ کہ وہ خدا کے لئے کوئی پہچان یا علامت ہوں ۔ جبکہ انسانوں کے نام مختلف قسم کے ہو تے ہیں بعض نام صرف پہچان کے طور پر ہیں جن میں اس لفظ کے معنی پر نظر نہیں ہوتی اور نہ ہی نام کے معنی اور اس شخص کے صفات میں کوئی مطابقت پائی جاتی ہے بلکہ کبھی نام ، صاحب نام کی صفات سے بالکل مختلف ہوتا ہے ، جیسے زیادہ جھوٹ بولنے والے شخص کا نام صادق ہو۔ لیکن اس کے برعکس کبھی نام اس فرد کی صفت بھی ہو تا ہے جو اس کے صفات و کمالات کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے سچے انسان کا نام صادق ہو۔

مثال کے طور پر کچھ نام صرف گھڑی کے الارم کی طرح ہیں جو وقت کے آنے کی پہچان ہیں۔ لیکن بعض نام مؤذن کی آواز کی طرح ہیں جو پہچان بھی ہے اور معنی دار بھی ۔

قرآن ارشاد فرماتا ہے :

(و لله الاسماء الحسنی)

اور اللہ ہی کے لئے بہترین نام ہیں ۔(۱)

روایتوں میں خدا کے ۹۹ نام آئے ہیں جن کو اسمائے حسنیٰ کہا جاتا ہے ۔ روایتوں میں ہے کہ جو شخص بھی خدا کو ان ناموں سے پکارے گا اس کی دعا قبول ہوگی ۔ (۲) دعائے جوشن کبیر میں ہم خدا کو ایک ہزار اوصاف کے ساتھ پکارتے ہیں ۔

.....

۱۔ اعراف ۱۸۰۔

۲۔ تفسیر نمونہ جلد ۷ آیہ ۲۷۔

اللہ کے بعد دو کلموں (رحمن) اور (رحیم) کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے کام کو لطف و رحمت الہی سے شروع کرے اور یہ جان لے کہ تمام امیدوں اور رحمت کا سرچشمہ خدائے تعالیٰ ہے ۔ اپنے کام کو رحمت کے الفاظ سے شروع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی سنت لطف اور رحمت ہے اور مناسب یہی ہے کہ انسان اس کی رحمت کے سرچشمہ سے مدد حاصل کرے ۔

رحمن ؛ خدا کا مخصوص نام ہے اس لئے کہ صرف اس کی رحمت وسیع و عریض اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دوسروں کے یہاں یا تو رحمت نہیں ہے یا اس میں وسعت نہیں ہے ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے عوض دنیاوی یا اخروی جزا کا امیدوار ہوتا ہے ۔ جیسے ہم گائے کو اسی لئے گھاس دیتے ہیں تاکہ اس کا دودھ دوہیں ۔ لفظ " الرحمن " اور " الرحیم " کے سلسلہ میں (الرحمن الرحیم) کی آیت کے ذیل میں مزید گفتگو کریں گے ۔

نماز کی تفسیر

الحمد لله

حمد ، مدح ، شکر کے کلمات ولو ظاہراً ایک ہی معنی میں ہیں لیکن ہر ایک کا استعمال خاص جگہ پر ہوتا ہے ۔ جیسے لفظ مدح کے معنی تعریف کے ہیں چاہے سچی تعریف ہو اور چاہے ناحق اور چاہلوسی کی وجہ سے تعریف ہو ۔ یہ تعریف چاہے کسی کے کمالات کی خاطر ہو یا ڈر اور لالچ کی بنا پر سامنے والے کو دھوکہ دینے کی وجہ سے یا چرب زبانی کی وجہ سے ہو ۔

لفظ شکر کے معنی اس خیر و نیکی کے مقابلہ میں شکریہ ادا کرنا ہے جو دوسروں سے انسان تک پہنچی ہے ۔ لیکن لفظ " حمد " میں تعریف و شکر کے علاوہ دوسرے معانی بھی پوشیدہ ہیں اور وہ معانی عبادت اور پرستش کے ہیں یعنی ایسا شکر اور تعریف جو عبادت کی حد تک پہنچے وہ حمد ہے پس مدح و شکر دوسروں کے لئے جائز ہے لیکن حمد فقط خدا سے مخصوص ہے اس لئے کہ عبادت فقط خدا سے مخصوص ہے ۔

اگر چہ (الحمد لله) کے بعد خدا کی چار صفتیں آئی ہیں ۔ رب العالمین ، الرحمن ، الرحیم ، مالک یوم الدین ۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان خدا کی عظمت و الطاف کی خاطر ہمیشہ اس کی حمد کرے ۔ لیکن ان سب سے پہلے " الله " آیا ہے یعنی حمد صرف خدا کے لئے ہے ۔ اگر فرض کریں کہ خدا کی یہ صفتیں حمد کے ساتھ نہ بھی آئی ہوتیں تو بھی حمد، الله ہی کے لئے ہے کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے ۔

رب العالمین

خدا ہر چیز کا پروردگار ہے ۔ جو چیزیں بھی زمین و آسمان کے درمیان ہیں خدا ان سب کا پروردگار ہے ۔

(رب السموات و الارض و ما بینہما) (۱) و (هو رب کل شیء) (۲)

حضرت علی ۔ عالمین کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

" من الجمادات و الحیوانات " یعنی وہ جمادات و حیوانات ، جاندار و بے جان سب کا پروردگار ہے ۔

اگرچہ کبھی قرآن میں (عالمین) سے انسان مراد ہیں ۔ لیکن بیشتر جگہوں پر عالم یعنی مخلوقات اور عالمین کے معنی تمام مخلوقات ہیں ۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تمام عالم ہستی

.....

۱۔ مریم ۶۵۔

۲۔ انعام ۱۶۴۔

کا پروردگار ہے ۔ لہذا زمانہ جاہلیت یا دوسری قوموں میں جو یہ عقیدہ رائج تھا کہ ہر موجود کے لئے ایک الگ خدا "رب النوع" ہے یہ ایک باطل فکر ہے ۔ خداوند عالم نے ہر موجود کی خلقت کے بعد اسکی ترقی و تکامل کا راستہ معین کر دیا ہے اور الہی تربیت ہی اس کی ہدایت کا راستہ ہے ۔ (ربنا الذ اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی) (۱) ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے ۔

الله وہ ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ سکھایا کہ پھول سے کیسے شہد نکالے ، چیونٹی کو سکھایا کہ سردی کے لئے میں کیسے اپنی غذا ذخیرہ کرے اور انسان کے بدن کو ایسا بنایا کہ خود بخود خون بنائے ۔ ہاں ایسا خدا شکر و ستائش کے لائق ہے انسان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جمال و کمال کی تعریف اور نعمت و احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے خداوند عالم اپنے کمال و جمال کی وجہ سے تعریف کے لائق اور نعمت و احسان کی وجہ سے شکر کا حقدار ہے ۔

البتہ خدا کے شکر کے ساتھ مخلوق کا شکر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر شرط یہ ہے کہ خدا کے حکم سے ہو اور اس کے راستے سے ہٹ کر نہ ہو ۔ اگرچہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص بھی جس زبان میں بھی جس طریقے سے بھی دوسروں کی تعریف کرتا ہے وہ درحقیقت اس کے خالق اور سرچشمہ کی حمد کرتا ہے ۔

(رب العالمین) یعنی خدا اور مخلوقات کے درمیان کا رابطہ مضبوط اور دائمی رابطہ ہے ۔

(رب العالمین) یعنی ترقی و تربیت کا امکان سب کے لئے موجود ہے ۔ فقط اچھے لوگ ہی نہیں بلکہ برے لوگ بھی خدا

کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں: (کلاً نمد هولاء و

هولاء) (۲)

.....

۱. طہ ۵۰.
۲. اسراء ۲۰.

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے : کہ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ہر ایک کے لئے میدان فراہم ہے تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔
لیکن چونکہ دنیا رکاوٹوں اور مزاحمت کی جگہ ہے لہذا طبیعی ہے کہ ہر شخص اپنی تمام آرزوں تک نہیں پہنچ سکتا۔
(ربّ العالمین) یعنی خداوند ہر چیز کا مالک بھی ہے اور ان کا پالنے والا بھی۔ لفظ "ربّ" کی اصل یا "ربی" ہے جس کے معنی رُشد و تربیت ہیں۔ یا یہ لفظ "ربّ" سے لیا گیا ہے جس کے معنی صاحب کے ہیں۔ یعنی خداوند متعال دنیا کا صاحب بھی ہے اور اس کی تربیت کرنے اور اسے پالنے والا بھی۔ (لہ الخلق و الامر تبارک اللہ ربّ العالمین) (۱)
اسی کے لئے خلق بھی ہے اور امر بھی وہ نہایت ہی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔
روایتوں کے مطابق کلمہ (الحمد للہ ربّ العالمین) خدا کی نعمتوں کا بہترین شکریہ ہے لہذا تاکید کی گئی ہے کہ ہر دعا سے پہلے خداوند متعال کی حمد کرو، ورنہ دعا ادھوری ہے۔
نہ صرف دعا و مناجات سے پہلے بلکہ اہل بہشت ہر کام کے آخر میں بھی اسی ذکر کی تکرار کرتے ہیں : (و آخر دعواہم ان الحمد للہ ربّ العالمین) (۲)

الرحمن الرحیم

ان دو کلموں کا ترجمہ "بخشنے والا مہربان"، کامل اور جامع ترجمہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ علامہ شہید مطہری کے بقول بخشنے والا مہربان؛ جواد و رؤف کا ترجمہ ہے نہ کہ رحمن و رحیم کا۔ حقیقت یہ ہے

۱. اعراف ۵۴.
۲. یونس ۱۰.

کہ فارسی حتی اردو میں ان دونوں لفظوں کا ترجمہ یا اس کا ہم معنی لفظ موجود نہیں ہے۔
گرچہ "رحمن" و "رحیم" یہ دونوں لفظ "رحمة" سے ماخوذ ہیں، لیکن رحمن، اللہ کی اس وسیع رحمت کو کہا جاتا ہے جو ابتدائی رحمت ہے اور جو تمام انسانوں کے لئے ہے۔ لیکن رحیم ایسی رحمت ہے جو نیک لوگوں کے اچھے اعمال کے نتیجے و جزا میں صرف انہیں نازل ہوتی ہے۔ لہذا امام جعفر صادق کے ارشاد کے مطابق خداوند عالم تمام مخلوقات کے لئے "رحمن" ہے لیکن صرف مومنین کے لئے "رحیم" ہے (کتب علی نفسہ الرحمة) (۱) اس کی کتاب؟ اور پیغمبرؐ دونوں ہی عالم ہستی کے لئے رحمت ہیں : (رحمة للعالمین) (۲)
اس کا نظام تعلیم تربیت رحمت کی بنیاد پر استوار ہے اس کی سزا و عذاب معلم کی چھڑی کی طرح تربیت کے لئے لازمی اور ضروری ہے۔ گناہوں کی بخشش، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنا اور ان کے عیوب کو چھپانا، پچھلی کمیوں کی تلافی کے لئے فرصت دینا اس کی وسیع رحمت کے جلوے ہیں۔
در حقیقت عالم ہستی اس کی رحمت کا جلوہ ہے۔ اس کی طرف سے ہر موجود کو جو بھی پہنچتا ہے اس کا لطف و رحمت ہے۔ لہذا قرآن کریم کی ساری سورتیں (بسم اللہ الرحمن الرحیم) سے شروع ہوتی ہیں۔
رب العالمین کے ساتھ الرحمن الرحیم یعنی تربیت الہی کی بنیاد رحمت و کرم ہے جس طرح اس کی تعلیم بھی رحم و کرم پر استوار ہے۔

(الرحمن علم القرآن) (۳) یعنی مہربان خدا نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔
یہ ہم انسانوں کے لئے ایک درس ہے کہ استاد اور تربیت دینے والا ہمیشہ مہربان و رحیم ہونا چاہئے۔

۱. انعام ۱۲.
۲. انبیاء ۱۰۷.

مالک یوم الدین

وہ روز جزا (قیامت) کا مالک ہے۔ خدا مالک بھی ہے اور مَلِک بھی۔ عالم ہستی؛ اس کی مالکیت کے تحت مَلِک ہے اور مُلک اس کی حکومت و سلطنت کے تحت ہے۔ اس کی مالکیت بہت وسیع ہے جس میں ساری چیزیں شامل ہیں حتیٰ حکومت بھی اس کی مالکیت کے تحت ہے:

(قل اللّٰهم مالک الملک) (۱)

جیسا کہ انسان بھی اپنے اعضائے بدن کا مالک بھی ہے اور ان کا حاکم و فرمانروا بھی۔

خداوند عالم کی مالکیت حقیقی ہے نہ کہ اعتباری، فرضی اور بنا ٹوٹی۔ خدا دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی۔ لیکن چونکہ انسان دنیا میں خود کو اشیاء اور امور کا مالک سمجھتا ہے لہذا ان کے اصل مالک (خدا) سے غافل ہو جاتا ہے۔

البتہ اس روز جب تمام اسباب منقطع اور نسبتیں مفقود ہو جائیں گی اور زبانوں پر مہر لگ جائے گی اس وقت خدا کی مالکیت کا اچھی طرح احساس کرے گا اور اس کی سمجھ میں آجائے گا ایسے شخص سے خطاب ہوگا (لمن الملک الیوم) آج حکومت کس کی ہے؟ اور جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ کہے گا (اللّٰه الواحد القہار) (۲)

نمازی ہر نماز میں جو یہ کہتا ہے خدا (مالک یوم الدین) ہے اس سے ہمیشہ معاد و قیامت یاد رہتی ہے اور وہ ہر کام کرنے سے پہلے حساب و کتاب اور روز جزا کی فکر کرتا ہے۔

.....

۱۔ آل عمران ۲۶۔

۲۔ مؤمن ۱۶۔

لفظ دین

کلمہ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے :

(۱) شریعت و قانون الہی : جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے :

(انّ الدین عند اللّٰه الاسلام) (۱)

دین ؛ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

(۲) عمل و اطاعت : جیسا کہ قرآن فرماتا ہے (اللّٰه الدین الخالص) (۲) دین خالص (عمل خالص) خدا کے لئے ہے۔

(۳) حساب و جزا : جیسا کہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے (مالک یوم الدین) قیامت کے ناموں میں سے ایک نام (یوم الدین) ہے۔ یعنی جزا و سزا کا دن۔ چنانچہ قرآن مجید قیامت کا انکار کرنے والوں کی بات نقل کر رہا ہے کہ (یسئلون ایان یوم الدین) (۳) یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا؟

دوسری جگہ پر اسی دن کے تعارف میں فرماتا ہے : (ثم ما ادریک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ للّٰه) (۴)

پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا (قیامت) کا دن کیسا ہے ؟ ! اس دن کوئی کسی کے بارے میں کسی قسم کا اختیار نہ رکھتا ہوگا اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا۔

(مالک یوم الدین) ایک طرح کی دھمکی ہے کہ اے نماز پڑھنے والو ابھی سے کل کی فکر میں رہو۔ کل کا دن (لا ینفع مال و لا بنون) ہے (۵) جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا۔

.....

۱۔ آل عمران ۱۹۔

۲۔ زمر ۳۔

۳۔ ذاریات ۱۲۔

۴۔ انفطار ۱۹۔

ایسا کل کہ (لن تنفعکم ارحامکم) (۱) یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روزِ قیامت کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ ایسا کل ہے کہ جس میں نہ زبان کو عذر پیش کرنے کی اجازت ملے گی اور نہ فکر کو تدبیر کرنے کی، صرف ایک چیز کارساز و چارہ ساز ہوگی اور وہ ہے لطفِ خدا۔
(الرحمن الرحیم) کو (مالک یوم الدین) کے ہمراہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر اور امید ایک ساتھ ہوں۔ تشویق و تنبیہ ایک ساتھ ہو۔

جب کہ قرآن کریم ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے
(نبیُّ عباد انّ انا الغفور الرحیم و انّ عذاب هو العذاب الالیم) (۲)
میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا درد ناک ہے۔
دوسری آیت میں قرآن مجید خدا کو اس طرح سے پہچنوا رہا ہے
(قابل التوب شدید العقاب) (۳)

یعنی خداوند عالم توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہے شدید عذاب کرنے والا بھی ہے۔
بہر حال (الرحمن الرحیم) امید دینے والا ہے اور (مالک یوم الدین) ڈرانے والا جملہ ہے۔ مسلمان کو چاہیئے کہ ڈر اور امید کے درمیان رہے تاکہ نہ تو غرور پیدا ہو اور نہ ہی رحمتِ الہی سے مایوسی۔

.....

- ۱۔ ممتحنہ ۳۔
- ۲۔ حجر ۴۹ ، ۵۰۔
- ۳۔ غافر ۳۔

ایک نعبد و ایک نستعین

پروردگار! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (ایک نعبد) یعنی صرف تیرے بندے ہیں، دوسروں کے بندے نہیں۔ اس جملہ کے دو رخ ہیں۔ ایک اس کی بندگی کا اقرار، دوسرے غیروں کی بندگی سے انکار۔
جی ہاں! کامل مکتب؛ خدا کے ایمان کے ساتھ طاغوت سے بھی انکار کرتا ہے اور جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن طاغوت کی حکمرانی بھی قبول کرتے ہیں وہ لوگ آدھے مسلمان ہیں اور شاید مسلمان ہی نہیں ہیں۔ خداوند عالم پر ایمان اور اس کے ساتھ طاغوت سے انکار یعنی ایک مسلمان قیدی شرک کے، بہنور میں پھنسنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے یگانگت و قدرت کے مرکز میں پناہ حاصل کرے۔

لہذا نماز پڑھنے والا نماز میں صرف اپنے کو نہیں دیکھتا کہ اپنی فکر میں رہے بلکہ تمام توحید پرستوں کی نمائندگی میں بات کرتا ہے کہ: خدایا! میں تنہا اس قابل نہیں کہ تیری عبادت کی لیاقت رکھتا اسی لئے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آیا ہوں اور ہم سب تیری ہی عبادت کریں گے نہ فقط میں، بلکہ ہم سب لوگ تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر اصل میں نماز کو جماعت سے پڑھنا چاہیئے اور فرادیٰ نماز، توجماعت قائم نہ ہونے پر ہے۔

اس سے پہلی والی آیتوں نے ہم کو توحید نظری اور خدا کی صحیح شناخت کرائی اور یہ آیت توحید عبادی و عملی کو بیان کر رہی ہے یعنی نہ صرف یہ کہ خدا کو ایک جانو بلکہ عمل میں بھی صرف ایک کی عبادت کرو اور یگانہ پرست رہو۔ تم کیوں رحمن و رحیم، ربّ اور مالک خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی اختیار کرتے ہو؟! صرف خدا کے بندے رہو نہ مشرق و مغرب کے اور نہ مال و طاقت کے بندے اور نہ ہی طاغوت کے۔ حتیٰ صالح و نیک لوگوں کی اطاعت و بندگی کا بھی تمہیں حق حاصل نہیں، مگر یہ کہ جب خدا اجازت یا حکم دے۔ چنانچہ اپنے پیغمبر ﷺ کے بارے میں فرماتا ہے (من یطع الرسول فقد اطاع الله) (۱) "جس نے رسول ﷺ کی پیروی کی اس نے خدا کی پیروی کی"۔ چنانچہ اگر والدین کی اطاعت کریں اس لئے کہ اس نے حکم دیا ہے تو یہ حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے۔

انسان کو چاہیئے کہ اپنی عقل کی بنا پر فقط خدا کی بندگی قبول کرے، اس لئے کہ ہم انسان؛ کمال کے عاشق ہیں اور ترقی

و تربیت کے محتاج، اور خداوند عالم میں تو تمام کمالات پائے جاتے ہیں اور وہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔
 اگر ہم مہر و محبت کے ضرورت مند ہیں تو وہ رحمن و رحیم ہے۔
 اگر آئندہ کے بارے میں فکر مند ہوں تو وہ صاحب اختیار ہے اور اس دن کا مالک ہے پھر کیوں دوسروں کی طرف جائیں اور ان سے مدد چاہیں؟!
 (ایک نعبد) یعنی لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے اور نہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے سے الگ ہوئے ہیں کہ تیری مخلوق کو بھول جائیں اور نہ ہی معاشرے میں ڈوب گئے کہ تجھ خالق کو چھوڑ دیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والا راستہ مخلوق کے درمیان سے گزرتا ہے۔
 (ایک نستعین) یعنی اگرچہ وہ اسباب اور وسائل جو تو نے دنیا میں قرار دیئے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہر وسیلہ کا اثر اور سبب کا مؤثر ہونا تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو سب کو با اثر یا بے اثر کرنے والا ہے۔ تو ہر چیز کو سبب بنانے والا ہے اور تو ہی اس کے اثر کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تیرا ارادہ تمام قوانین پر حاکم ہے اور کائنات تیرے ارادے کے سامنے محکوم و مجبور ہے۔
 (ایک نعبد) یعنی صرف تو عبادت کے لائق ہے اور ہم ڈر اور لالچ کی وجہ سے نہیں

۱۔ نساء ۸۰۔

بلکہ عشق و محبت کی وجہ سے تیری عبادت کرتے ہیں کون سا محبوب تیرے علاوہ ہم سے نزدیک تر اور مہربان تر ہے؟

(ایک نعبد و ایک نستعین) یعنی نہ تو جبر اور نہ ہی تفویض۔ کیونکہ ہم "نعبد" کہتے ہیں پس اختیار کے مالک ہیں اور چونکہ "نستعین" کہتے ہیں پس محتاج ہیں اور تمام امور ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔
 (ایک نعبد و ایک نستعین) یعنی نماز کو جماعت سے پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ایک صف میں بھائی چارگی اور انسانیت کے ساتھ متحد ہیں۔
 (ایک نعبد) یعنی خدایا تجھ کو ہم اپنے اوپر حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں (ایک) اور وہ بندے جو تجھے حاضر و ناظر سمجھتے ہیں وہ جلدی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔
 ہم سورہ حمد کے شروع میں خدا سے غائبانہ باتیں کر رہے تھے لیکن یہاں پر اس کے سامنے اور براہ راست منزل خطاب میں پہنچتے ہیں۔ پہلے خدا کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ خود اس تک پہنچتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ نہیں چونکہ محبوب سے گفتگو شیریں ہوتی ہے اس لئے لفظ (ایک) کی تکرار کرتے ہیں۔
 خدایا! اگرچہ عبادت ہم کر رہے ہیں لیکن عبادت کرنے میں بھی تیری مدد کے حاجتمند ہیں:

(و ما كنا لنهتد لولا ان هدانا الله) (۱)

اور اگر اس (خدا) کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ نہیں پا سکتے تھے۔
 اگرچہ ہم صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں لیکن دوسروں سے مدد حاصل کرنا اگر اس کی مرضی سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جیسے انسان اپنی استعداد، طاقت اور فکر سے مدد لیتا ہے یہ وحدانیت کے خلاف نہیں ہے خدائے تعالیٰ نے خود ہم کو حکم دیا ہے (تعاونوا) اس لئے کہ زندگی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

حضرت علیؓ نے ایک شخص سے (جو یہ دعا کر رہا تھا کہ خدایا ہم کو لوگوں کا محتاج نہ کرنا) فرمایا: یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کہو خدایا ہم کو برے لوگوں کا محتاج نہ کرنا، اس لئے کہ زندگی بغیر مدد اور تعاون کے ممکن نہیں ہے۔ سچے دل سے (ایک نعبد) کہنے والے مینتکیر و غرور اور خود پسندی نہیں رہتی اور وہ خدا کے حکم کے آگے خاضع اور اس کی اطاعت کرنے والا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ خداوند متعال نے کیوں نہ بہت زیادہ اس پر لطف کیا ہے لہذا آخری حد تک اپنے کو حقیر بنا کے اس کی بارگاہ میں پیش کرے جیسے مجسم غلام اپنے مطلق آقا کے سامنے کھڑا ہو اور نہایت خضوع کے ساتھ کہے کہ: ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا مولا و آقا۔ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں لیکن تیرے لئے ہمارے علاوہ بہت ہیں۔ تجھ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں بلکہ ہم سراپا تیرے لطف و کرم کے محتاج ہیں لہذا ضروری ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں۔

نماز کی تفسیر

اهدنا الصراط المستقیم

خداوند! ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کاروان ہستی خداوند عالم کی طرف رواں دواں ہے۔ (الیہ المصیر) (۱) اور انسان بھی کوشش اور حرکت میں ہے (انک کادح الی ربک) (۲) اور ہر حرکت میں صرف ایک راستہ سیدھا ہوتا ہے باقی راستے منحرف کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام نے اس حرکت کے لئے راستہ بھی معین کیا اور راستہ دکھانے والا بھی، جہاں جانا

۱۔ مانده ۱۸ .

۲۔ انشقاق ۶ .

ہے اس کو بھی مشخص کیا اور آگے بڑھنے کا وسیلہ بھی انسان کے اختیار میں دیدیا البتہ یہ ہم خود طے کریں کہ ہمیں کس راستہ پر جانا ہے۔

پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں ترقی و کمال اور حق طلبی کی چاہت کو راسخ کر دیا ہے اگر یہ چاہت و کشش انبیاء کی تعلیمات کے سائے میں پروان چڑھے تو خداوند عالم کی خاص عنایت کا باعث ہوگی (و الذین اہتدوا زادہم ہدیٰ) (۱) اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقویٰ عنایت فرما دیا۔ "قرآن کریم دو طرح کی ہدایت بیان کرتا ہے ایک ہدایت تکوینی جیسے شہد کی مکھی کی ہدایت کہ پھولوں سے کیسے رس چوسے اور شہد بنائے اور دوسری ہدایت تشریحی ہے جو انسانوں سے مخصوص ہے۔ یہی ہدایت انبیاء الہی کی رہنمائی ہے۔"

صراط مستقیم کونسا راستہ ہے؟

لفظ صراط، قرآن مجید میں ۴۰ بار سے زیادہ آیا ہے۔ اس کے معنی: ہموار، وسیع، روشن اور چوڑے راستہ کے ہیں۔ انسان کی زندگی میں متعدد راستے موجود ہیں، جن میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اپنی ہوس کا راستہ، لوگوں کی ہوس کا راستہ، طاغوت کا راستہ، قومی اور نسلی تعصبات کی وجہ سے اپنے اسلاف کا راستہ، شیطانی وسوسوں کا راستہ، غیر مجرب راستہ اور بالآخر خدا اور اولیائے خدا کا راستہ۔ فطری بات ہے کہ خداوند متعال پر اعتقاد رکھنے والا انسان اتنے راستوں میں سے صرف خدا اور اولیائے خدا کے راستہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس راستہ مینایسی خصوصیتیں موجود

ہیں جو دوسرے راستوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔
 * یہ سیدھا راستہ ہے جو دو نقطوں کے درمیان سب سے چھوٹا راستہ ہے۔ لہذا مقصد تک پہنچنے کے لئے یہی راستہ سب سے نزدیک راستہ ہے۔
 * اللہ کا راستہ ثابت ہے۔ دوسرے راستے، اپنی یا دوسروں کی ہوئی و ہوس کی خاطر بدلتے رہتے ہیں۔
 * سیدھا راستہ ایک سے زیادہ نہیں ہے اس لئے کہ دو نقطوں کے درمیان صرف ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے راستے زیادہ ہیں۔
 * دوسرے راستوں کے ہر خلاف مطمئن اور بے خطر راستہ ہے کیونکہ ان میں انسان ہمیشہ پھسلنے کے خطرے سے دوچار ہتا ہے۔
 * ایسا راستہ ہے جو انسان کو مقصد یعنی رضائے خدا تک پہنچاتا ہے اس میں شکست اور نا کامی کا وجود نہیں پایا جاتا۔
 * سیدھا راستہ، خدا کا راستہ ہے (ان رب علی صراط مستقیم) (۱)
 * سیدھا راستہ انبیاء کا راستہ ہے (انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم) (۲)
 * سیدھا راستہ، خدا کی بندگی کا راستہ ہے (و ان اعدون هذا صراط مستقیم) (۳)
 * سیدھا راستہ، خدا پر توکل و انحصار ہے (و من یعتم با اللہ فقد ہد الی صراط مستقیم) (۴)
 انسان کو چاہیئے کہ راستہ کے انتخاب میں بھی خدا سے مدد مانگے اور اس پر چلنے اور باقی

- ۱۔ ہود ۵۶۔
 ۲۔ یس ۳، ۴۔
 ۳۔ یس ۶۱۔
 ۴۔ آل عمران ۱۰۱۔

رہنے میں بھی۔ جیسے بلب کو جلنے کے لئے ہر وقت ٹرانسفارمر سے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ خاصان خدا کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہر نماز میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا خدا سے کریں۔ نہ صرف نماز کی حالت میں بلکہ ہر حال میں اور ہر کام میں، چاہے کسی کام کا انتخاب ہو یا کسی دوست کا انتخاب، شادی کا مسئلہ ہو یا حصول علم کا، ہمیشہ خدا سے چاہیں کہ ہم کو صراط مستقیم پر قرار دے۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ عقائد میں تو انسان کی فکر صحیح ہو لیکن عمل میں لغزش پیدا ہو جائے یا اس کے برعکس۔
 * صراط مستقیم اعتدال اور میانہ روی کا راستہ ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

"الیمین و الشمال مضلة و الطريق الوسطیٰ ہی الجادة" (۱)

یعنی دائیں بائیں انحراف ہے اور سعادت کا راستہ درمیانی ہے۔

* صراط مستقیم یعنی ہر قسم کی افراط و تفریط سے دوری، نہ تو حق سے انکار اور نہ حق میں غلو، نہ جبر اور نہ تفویض، نہ فرد اصل ہے اور نہ سماج سب کچھ ہے، نہ فقط عقل اور ذہن و خیال اور نہ فقط عمل، نہ دنیا پرستی اور نہ آخرت سے دوری، نہ حق سے غفلت اور نہ خلق سے غفلت، نہ فقط عقل اور نہ فقط جذبات، نہ پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینا اور نہ شہوتوں میں غرق رہنا، نہ کنجوسی اور نہ اسراف، نہ حسد اور نہ ہی چاپلوسی، اور نہ ڈرا اور نہ ہی با لکل بے باکی وغیرہ وغیرہ۔

بلکہ عقیدہ ہو یا فکر و عمل ہو اور یا کردار، ہر جگہ میانہ روی کا راستہ منتخب کریں۔

سیدھے راستہ پر چلنے کے لئے ہمیشہ خدا سے مدد مانگیں اس لئے کہ یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلواری کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور ہر وقت گرنے کا خطرہ لاحق ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے

کہ صراطِ قیامت کو پار کر لے وہ پہلے دنیا میں اللہ کے سیدھے راستے سے منحرف نہ ہو۔ چاہے وہ انحرافِ فکری ہو یا عملی اور یا اخلاقی انحراف ہو۔

کوئی جبر کا قائل ہو جاتا ہے اور سارے کاموں کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے گویا انسان بے ارادہ اور بے اختیار ہے اور وہ اپنی عاقبت میں کوئی اثر نہیں رکھتا اور دوسرا اپنے ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جو دل چاہے وہ کرتا ہے خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک آسمانی رہبروں کو عام لوگوں کی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا ان کو خدا کے برابر بلند کرتا ہے اور حضرت مسیح - کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا ہی سمجھتا ہے۔

ایک اولیائے خدا کی زیارت اور ان سے توسل کو شرک جانتا ہے دوسرا حتی درخت اور دیوار سے بھی متوسل ہوتا ہے۔ ایک بے جا غیرت کی بنا پر اجازت نہیں دیتا کہ اس کی بیوی گھر سے باہر نکلے۔ دوسرا بے غیرتی کی بنا پر اپنی بیوی کو بے پردہ کوچہ و بازار میں بھیجتا ہے۔ یہ سب خدا کے سیدھے راستے سے انحراف ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے: آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے جو ایک مضبوط دین ہے (قل انن ہدین رب الی صراط مستقیم دینا قیما) (۱)

دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ: ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو (جعلنا کم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس) (۲)

روایتوں میں آیا ہے کہ ائمہ معصومین % فرماتے ہیں کہ مستقیم راستہ ہم ہیں یعنی صراطِ مستقیم کے حقیقی اور عملی نمونے اور اس راستے پر چلنے کیلئے آسمانی رہبر ہمارے لئے نمونہ عمل ہیں۔

۱. انعام ۱۶۱.

۲. بقرہ ۱۴۳.

انہوں نے اپنے اقوال میں زندگی کے تمام مسائل جیسے کام کاج، تفریح، تعلیم، تنقید، انفاق، محبت، غصہ اور صلح کے مواقع پر ہم کو اعتدال اور میانہ روی کی تاکید فرمائی ہے۔ اصول کافی کے باب "الاقتصاد ف العبادات" میں یہ احکام و تاکیدات آئی ہیں۔

ہم یہاں پر ان آیات اور روایات کے کچھ نمونے جن میں اعتدال کی تاکید اور افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے، پیش کر رہے ہیں:

(کلوا و اشربوا و لا تسرفوا) (۱) کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔

(لا تجعل يدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسط) (۲) اور خبردار! اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار نہ دو

اور نہ بالکل پھیلا دو۔ یعنی انفاق میں نہ تو ہاتھ بند رکھو اور نہ ہی اتنا خرچ کرو کہ خود بھی محتاج ہو جاؤ۔

(الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و کان بین ذالک قواما) (۳) اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں

اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

(لا تجهر بصلوتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا) (۴) اور اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ

بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو۔

(و الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینهم) (۵) اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے سخت ترین اور آپس میں

انتہائی رحم دل ہیں۔

۱. اسراء ۲۹.

۲. فرقان ۶۷.

۳. اسراء ۱۱۰.

۴. فتح ۲۹.

(اقيموا الصلاة و اتوا الزكاة) (۱) نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو ۔ يعنى الله سے بهى رابطہ رکھو اور مخلوق سے بهى مربوط رہو ۔
 (الذين آمنوا و عملوا الصالحات) (۲) اور جو لوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيك عمل كئے ۔ يعنى ايمان اور قلبى يقين كے ساتھ ساتھ عمل صالح بهى ہو ۔
 اگرچہ قرآن فرماتا ہے (و بالوالدين احسانا) (۳) اپنے والدین كے ساتھ نيكي كرو ليكن دوسرى جگہ پر ارشاد فرماتا ہے : " اگر تم كو خدا كے راستہ سے روكيں تو انكى اطاعت كرنا جائز نہيں " (فلا تطعهما) (۴)
 حق بيانى سے نہ تمہارى دوستياں تم كو روكيں (شهداء الله ولو على انفسكم) (۵) اور نہ تمہارى دشمنياں تم كو عدالت سے دور كريں (و لا يجر منكم شننان قوم على ان لا تعدلوا) (۶)
 امام حسين ۔ شب عاشور خدا سے مناجات بهى كر رہے تھے اور شمشير بهى تيز كر رہے تھے ۔
 حاجى حضرات روز عرفہ اور شب عيد قربان دعا پڑھتے ہيں اور عيد قربان كے روز ضرورى ہے كہ قربان گاہ ميں جاكر قربانى اور خون دينے كے مزہ سے آگاہ ہوں ۔
 مختصر یہ كہ دين اسلام كا صرف ايک ہى رخ نہيں ہے كہ كسى ايک پہلو پر توجہ كى جائے اور دوسرے پہلو كو فراموش كر ديا جائے بلکہ اس نے انسانى وجود كے تمام پہلوونپر اعتدال اور ميانہ روى كے ساتھ توجہ كى ہے ۔

.....

۱۔ بقرہ ۴۳۔

۲۔ بقرہ ۸۲۔

۳۔ بقرہ ۸۳۔

۴۔ عنكبوت ۸۔

۵۔ نساء ۱۳۵۔

۶۔ مانده ۸۔

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين

"جو ان لوگوں كا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل كیں ہيں ، ان كا راستہ نہيں جن پر غضب نازل ہوا ہے يا جو بہكے ہوئے ہيں "

نماز پڑھنے والا صراط مستقيم كى درخواست كے ساتھ خدا سے چاہتا ہے كہ اس كو اسى راستہ كى ہدايت كرے جو الله كى نعمت پانے والوں كا راستہ ہے ۔

قرآن كريم سورہ نساء كى ۶۹ ويں آيت اور سورہ مريم كى ۵۸ ويں آيت ميں اسے لوگوں كا تعارف كراتا ہے ۔
 يہاں پر ہم سورہ نساء كى ۶۹ ويں آيت كى طرف آپ كى توجہ ميذول كراتے ہيں (و من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقاً) اور جو بهى الله اور رسول كى اطاعت كرے گا وہ ان لوگوں كے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل كیں ہيں ۔ یہ لوگ انبياء ، صديقين ، شهداء ، اور صالحين ہيں اور يہى بہترين رفقاء ہيں ۔

پس اسى بناء پر نماز پڑھنے والا خدا سے یہ چاہتا ہے كہ اس كو انبياء و شهداء اور صالحين كے راستہ پر قرار دے ۔ ان نيك اور رپاك لوگوں كے راستہ پر چلنے كى آرزو انسان كو كجروى اور رے راہ روى كے خطرہ سے محفوظ ركھتى ہے ، اور اس سے ان لوگوں كى ياد نماز پڑھنے والوں كے ذہن ميں مستقل زندہ رہتى ہے ۔

گمراہ اور جن پر الله كا غضب نازل ہوا وہ كون لوگ ہيں ؟

قرآن مجيد ميں فرعون ، قارون ، ابولہب اور عاد و ثمود اور بنى اسرائيل جيسى اقوام كو ان لوگوں كے عنوان سے متعارف كرايا گيا ہے جن پر قہر الہى نازل ہوا ہے ۔ ہم ہر نماز ميں خداوند متعال سے یہ چاہتے ہيں كہ ہم اپنے عقيدہ اور اخلاق و عمل ميں ان لوگوں اور ان قوموں كى طرح نہ ہوں جن پر الله كا قہر نازل ہوا ہے ۔

بنی اسرائیل ، جن کی داستان اور حالات و رسومات کو قرآن مجید میں زیادہ بیان کیا گیا ہے ، یہ لوگ ایک وقت اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے ۔ خداوند عالم ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے (فضلتکم علی العالمین) (۱) ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دی ۔ لیکن اتنی فضیلت و برتری کے بعد بھی ان کے غلط کردار و عمل کی وجہ سے خداوند عالم نے ان پر اپنا غضب نازل کر دیا ۔ قرآن اس بارے میں فرماتا ہے : (وبئى و بغضب من الله) (۲) ان کی اس عاقبت و انجام کی تبدیلی ان کے عمل و کردار کی تبدیلی کی وجہ سے تھی۔

یہودی علماء نے توریت کے آسمانی احکام میں تحریف کر دی (یحرفون الکلم) (۳) ان کے تاجروں اور ثروت مندوں نے سود خوری اور حرام خوری شروع کر دی (و اخذهم الربای) (۴) اور پوری قوم نے ڈر اور جان بچانے کی خاطر جہاد اور لڑائی سے منہ موڑ لیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جنگ کرنے کے لئے جاؤ ہم یہیں بیٹھے ہیں) فاذهب انت و ربک فقاتلا انا ہیہنا قاعدون) (۵)

یہی فکری و عملی انحراف باعث بنا کہ خدا نے ان کو عزت کی بلندی سے ذلت کی کھائی میں پھینک دیا اور ہمیشہ کے لئے شرمندگی سے ان کی گردنوں کو جھکا دیا ۔ پس ہر نماز میں خدا سے یہی دعا کریں کہ آسمانی کتاب کی تحریف کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ہی سود کھانے والوں اور نہ

.....

۱۔ بقرہ ۴۷۔

۲۔ بقرہ ۶۱۔

۳۔ مائدہ ۱۳۔

۴۔ نساء ۱۶۱۔

۵۔ مائدہ ۲۴۔

جنگ و جہاد سے بھاگنے والوں میں سے ہوں اور نہ گمراہوں میں سے ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے جو راستہ بھٹکنے والے کی طرح پریشان حال اور سرگردانی میں مبتلا ہیں اور ہر وقت کسی مقصد کے بغیر کسی بھی طرف چل دیتے ہیں ۔ یہ لوگ حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور خود اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتے ہیں ۔

(ضالین) نہ تو (انعمت علیہم) کی طرح ہیں جو انبیاء اور نیک لوگوں کے راستہ پر ہوں اور نہ ہی (المغضوب علیہم) کی طرح ہیں جو دین خدا کے مقابلہ میں سینہ تان کر جنگ کرتے ہیں بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لا پر واہ ، بے درد اور آرام طلب ہیں اور جانوروں کی طرح صرف پیٹ اور شہوت کی فکر میں ہیں ۔ حق و باطل سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ۔ ان کے لئے کچھ فرق نہیں کہ پیغمبران پر حاکم ہوں یا طاغوت اور سرکش ۔ اہم یہ ہے کہ ان کے لئے دنیاوی عیش و آرام ہو ، چاہے جو بھی حکومت کرے ۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنا راستہ معین نہیں کیا ۔

یہ آیت مکمل طور سے تولاً اور تبراً کی مصداق ہے ۔

نماز پڑھنے والا سورہ کے آخر میں شہداء اور صالح لوگوں سے اپنے عشق و محبت اور تولاً کا اظہار کرتا ہے اور تاریخ کے گمراہوں اور جن پر غضب خدا نازل ہوا ہے ان سے برائت اور دوری اختیار کرتا ہے ۔ گمراہوں اور قہر کا نشانہ بننے والوں سے ہر نماز میں اظہار نفرت ہی اسلامی معاشرے کو ایسے لوگوں کی حکومت کے مقابلہ میں مضبوط اور پائدار بناتا ہے ۔ قرآن مجید تاکید فرماتا ہے : (لا تتولوا قوما غضب الله علیہم) (۱) خبر دار اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس پر خدا نے غضب نازل کیا ہے ۔ "

.....

۱۔ ممتحنہ ۱۳۔

نماز کی تفسیر

پانچواں باب

سورئہ توحید

سورئہ توحید کی فضیلت

نماز میں سورئہ حمد کے بعد قرآن مجید کا کوئی دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے، البتہ نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ کوئی بھی سورہ پڑھے، مگر ان چار سوروں کے علاوہ جن میں سجدہ واجب ہے۔ لیکن تمام سوروں کے درمیان سورئہ توحید کو فوقیت حاصل ہے، لہذا روایتوں میں تاکید ہوئی ہے کہ رات دن کی نمازوں میں کم از کم کسی ایک رکعت میں اس سورہ کو پڑھو تاکہ واقعی نماز پڑھنے والوں میں قرار پاؤ۔ (۱)

یہ سورہ ایک تہائی قرآن بلکہ ایک تہائی توریت و زبور اور انجیل کے برابر اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف نماز میں بلکہ اگر اسے نماز کے بعد بھی تعقیبات نماز کے عنوان سے پڑھا جائے تو خداوند عالم انسان کو دنیا و آخرت کی خیر مرحمت فرماتا ہے۔ اگرچہ یہ سورہ چھوٹا ہے لیکن اس کے معنی اور اس مضمون بہت بلند ہے۔ جیسا کہ امام سجاد نے فرمایا ہے چونکہ خدا جانتا تھا کہ آئندہ زمانوں میں دقیق اور عمیق لوگ پیدا ہوں گے لہذا اس نے اس سورہ کو اور سورئہ حدید کی ابتدائی آیتوں کو نازل کیا ہے۔

صرف نماز ہی میں اس سورہ کی تلاوت کرنے کی تاکید نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کی بار بار تلاوت کرنے سے ظالموں کا شر کم ہوتا ہے اور حوادث و خطرات سے انسان کا گھر محفوظ رہتا ہے۔

سعد بن معاذ، رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اور آپ ﷺ کے لشکر کے سرداروں میں سے

.....

۱۔ اس سورہ کی اہمیت و فضیلت کی روایتیں تفسیر برہان میں ذکر ہوئی ہیں۔ ہم یہاں پر صرف ان روایتوں کے چند گوشوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

تھے جو مدینہ کے قبرستان بقیع میں دفن ہیں۔ ان کی تشییع جنازہ میں رسول اللہ ﷺ نے پا برہنہ شرکت کی اور فرمایا: نوے ہزار فرشتے آسمان سے سعد کی تشییع جنازہ کے لئے آئے ہیں۔ پیغمبر ﷺ نے حضرت جبرئیل سے پوچھا تم اور اتنے فرشتے سعد بن معاذ کی تشییع جنازہ کے لئے کیوں نازل ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب جبرئیل نے کہا وہ اٹھتے، بیٹھے، سوار اور پیدل ہر حال میں سورئہ (قل ہو اللہ احد) کی تلاوت کرتے تھے۔

اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ سے خدا کے بارے میں یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے خدا کو پہچنائیے۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے ان کے جواب میں اس سورہ کی تلاوت کی، یہ سورہ گویا خدائے تعالیٰ کا شناختی کارڈ ہے۔

قل ہو اللہ احد

" اے رسول! کہہ دیجئے کہ خدا ایک ہے۔"

توحید تمام آسمانی ادیان کی بنیاد اور اصل ہے اور انبیاء اس لئے آئے ہیں تاکہ شرک اور کفر و بت پرستی کے اثرات کو درمیان سے ہٹا دیں اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دیں۔

توحید: انبیاء کی تعلیمات کی روح و جان ہے۔ نہ صرف عقائد بلکہ احکام و اخلاق بھی توحید کے محور پر قائم ہیں۔

توحید: ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ بغیر توحید کے ایمان کے قلعہ میں داخل ہونا ممکن نہیں " قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا " (۱) اور " لا الہ الا اللہ حصن فمن

دخل حصن امن من عذاب " (۲)

.....
۱۔ بحار الانوار جلد ۱۸ صفحہ ۲۰۲ .

۲۔ بحار الانوار جلد ۳ صفحہ ۱۳ .

اس سورہ میں خالص ترین توحیدی عقائد ہیں۔ اسی لئے اس کو سورئہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث (تین خداؤں) کو رد کرتا ہے۔ یہودیوں کے شرک اور جاہل عربوں کے عقیدہ کو بھی رد کرتا ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کہتے تھے۔

توحید: یعنی خدا کے لئے ساتھی اور شریک قرار دینے سے اپنے عمل اور فکر کو خالص کرنا تاکہ فکر میں شرک اور عمل میں دکھاوانہ آئے بلکہ ارادہ اور مقصد صرف خدا کے لئے ہو اور خود عمل بھی الہی و خدائی ہو۔
(قل ہو اللہ احد) وہ یکتا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں، کوئی اس کی طرح اور اس جیسا نہیں۔ اس کا جز اور عضو نہیں۔
(قل ہو اللہ احد) وہ ایسا معبود ہے جو ہر لحاظ سے منفرد ہے لہذا بشر اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہے۔
اس کی یکتائی اور وحدانیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی پیغمبروں کو بھیجتا تاکہ اس کو بھی لوگ پہچانیں اور اس کی اطاعت کریں۔

اس کی وحدانیت کی دلیل یہ ہے کہ تمام انسان خطرے کے وقت صرف ایک مرکز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ صرف ایک مرکز ہے جو مشکلات میں انسان کو امید دیتا ہے۔
اس کی یکتائی کی دلیل زمین و آسمان، عالم ہستی اور انسان کے درمیان ہم آہنگی کا ہونا ہے اور یہ کہ تمام مخلوقات کے درمیان گہرا اور منظم رابطہ ہے۔

اگر آپ ایک تصویر بنانے کے لئے کچھ مصوروں سے کہیں مثلاً ایک سے کہیں کہ مرغ کا سر بنائے دوسرا اس کا بدن اور تیسرا اس کی دم اور اس کے پیر بنائے جس وقت ان تینوں تصویروں کو ایک ساتھ جمع کریں گے تو اس کے سر اور دھڑ کے درمیان تناسب نہیں ہوگا۔ ایک چیز بڑی دوسری چھوٹی، ایک خوبصورت اور ایک بد صورت۔
جی ہاں! سورج، چاند، زمین، پانی، ہوا، مٹی، پہاڑ، صحرا، دریا ان سب کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہم آہنگ ہونا خدا کی یکتائی و وحدانیت کی دلیل ہے۔ انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتا ہے۔ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں تاکہ انسان اور دوسری زندہ مخلوق کی ضرورت پوری ہو اور یہ ہم آہنگی انسان اور درخت کی زندگی کا راز ہے۔

وہ (خدا) نو مولود بچے کی ضروریات کو والدین کی محبت سے پوری کرتا ہے۔ دن کی تھکاوٹ کو رات کی نیند سے دور کرتا ہے۔ آنکھوں کے پانی کو کھارا اور منہ کے پانی کو میٹھا خلق کیا تاکہ ایک سفید رگوں سے بنی آنکھ کو نمک کے پانی سے دھوئے اور ایک کھانے کو چبانے اور ہضم کرنے کے لئے آمادہ کرے۔ نو مولود کو پھونکنے کے بجائے چوسنا سکھایا اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کیا۔ بعض پرند و نکی غذا مگر مچھ کے دانتوں کے درمیان قرار دی اور تمام جانوروں کا رزق اچھی طرح فراہم کیا۔

ایک بدو عرب نے جنگ جمل میں حضرت علیؑ سے توحید کے معنی پوچھے۔ دوسرے فوجیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اس سوال کے پوچھنے کا یہ وقت نہیں ہے! لیکن حضرت نے اس جنگ کے ہنگامہ میں اس کو توحید کے معنی اور اس کی تفسیر بتائی اور فرمایا: ہم اسی معنی کی وجہ سے مخالفین سے جنگ کر رہے ہیں۔ (۱) جی ہاں پوری تاریخ میں پیروان حق کی جنگ اسی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے تھی۔

.....
۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۵ صفحہ ۷۰۹ .

اللہ الصمد

" اللہ ہے نیاز ہے "

" صمد " : یعنی جس میں کوئی نفوذ نہ کر سکے۔ جس میں خلل واقع نہ ہو جو متغیر نہ ہو۔

وہ صمد ہے: پس مادہ نہیں ہے اور نہ ہی مادہ سے ہے۔ اس لئے کہ ہر مادی چیز میں زمانہ گزرنے کے ساتھ خلل اور تغیر

پیدا ہوتا ہے لہذا وہ نہ تو جسم رکھتا ہے جسے آنکھوں سے دیکھا جاسکے اور نہ ہی قوت جاذبہ کی طرح ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی لیکن مادی خاصیت رکھتی ہے۔

وہ صمد ہے : جسکی قدرت میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا مگر اس کا ارادہ ہر چیز میں نافذ و جاری ہے۔
 وہ صمد ہے : اس کی عزت میں خلل واقع نہیں ہوتا اور تمام عزتیں اسی سے ہیں۔ جو بھی عزت و قدرت رکھتا ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے اور وہ کسی شخص یا کسی چیز کا محتاج نہیں لیکن ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں۔
 وہ صمد ہے : اس کی ہستی کامل و اکمل ہے بلکہ مکمل کمال ہے۔ اس میں تمام کمالات، کمال کی آخری بلندی کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام موجودات، کمال تک پہنچنے کے لئے اس کی نظرِ لطف و کرم کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی موجود کا محتاج نہیں وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا حکم تمام حکموں کے اوپر اس کا ارادہ تمام ارادوں پر حاکم ہے۔ اس کو نہ سونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کام کے انجام دینے میں کسی مدد یا مددگار کا محتاج ہے۔
 وہ صمد ہے : ایک جملہ میں : سب اس کے نیاز مند ہیں۔

لم یلد و لم یولد

" اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد "

وہ موجودات کا خالق ہے نہ کہ ان کو جنم دینے والا۔ اس کا کام جننا نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے کو وجود میں لائے بلکہ وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، ماں جس بچہ کو پیدا کرتی ہے وہ بچہ اسی کی جنس سے اور اسی کی طرح یعنی انسان ہوتا ہے لیکن خدا کے لئے مثل و شبیہ کا امکان نہیں کہ خدا اسکو پیدا کرے یا خود کسی سے پیدا ہو (لیس کمثلہ شیئ) (۱)
 یہ جملہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مقابلہ میں ہے جو حضرت عیسیٰ - کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور انکے لئے خدا کی طرح خدائی کے قائل ہیں۔ اسی طرح یہ آیت مشرکوں کے عقیدہ کے مقابلہ میں بھی ہے کہ وہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیانکہتے تھے اور آیت یہ بتاتی ہے کہ خدا نے کسی بچہ کو جنم ہی نہیں دیا جو لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتی۔
 وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اس سے پہلے یا اس سے برتر ہو۔

اس کا وجود پھول سے پھل اور بیج سے درخت کے نکلنے کی طرح نہیں ہے یا بادل سے پانی یا لکڑی سے آگ نکلنے کی طرح نہیں ہے۔ یا منہ سے بات اور یا قلم سے تحریر کے نکلنے کی طرح نہیں ہے۔ یا پھول سے خوشبو یا کھانے سے مزہ نکلنے کی طرح نہیں ہے۔ یا عقل سے فکر یا دل سے سمجھ یا آگ سے گرمی یا برف سے سردی کے نکلنے کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہے لیکن کسی چیز اور کسی شخص سے مشابہ نہیں ہے۔ نہ وہ کسی چیز میں ہے اور نہ اس میں کوئی چیز۔
 چیزوں سے اس کا رابطہ باپ اور بیٹے کی طرح نہیں ہے بلکہ خالق اور مخلوق کا رابطہ ہے۔

.....

۱۔ سورئ ۱۱۔

و لم یکن لہ کفواً احد

" اور نہ اس کا کوئی کفو اور نہ کوئی ہمسر ہے "

وجود، کمال اور افعال میں کوئی اس کے جیسا نہیں۔ وہ احد ہے اور کوئی اس کے ہم پلہ نہیں۔ وہ اکیلا ہے بیوی اور بچے نہیں رکھتا۔ وہ اپنا مثل نہیں رکھتا کہ جو اس کا شریک اور اس کا معاون و مددگار ہو۔

پھر انسان یہ کیسے ہمت کرتا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کا شریک جانے اور اس کے حق میں اتنے بڑے ظلم کا مرتکب ہو (ان الشریک لظلم عظیم) (۱)

اے نماز پڑھنے والو ! نہ اس نعمت میں جو خدا کی طرف سے تم کو ملتی ہے، کسی کو اس کا شریک سمجھو اور نہ اس کام میں جس کو تم انجام دے رہے ہو، خدا کے علاوہ کسی کو مد نظر رکھو۔ کیوں کسی ایسے کی نظر کرم کی فکر میں ہو جو تمہارے جیسا ضعیف و محتاج ہے؟!۔

خدا کی توجہ اور عنایت کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہو۔ کوئی اس کی طرح نہیں ہے نہ وہ ضعیف ہے اور نہ محتاج

- سورہ کے آخر میں ہم اسکے بلند مفاہیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

(قل ہو اللہ احد) وہ تن تنہا ہے - ذات میں بھی اور صفات میں بھی - پس معبود ہونے کی لیاقت رکھنے میں بھی وہ یکتا و یگانہ ہے -

(اللہ الصمد) صرف وہ ہے نیاز ہے اور بقیہ سب اس کے نیاز مند ہیں اور وہ اپنی بے نیازی میں بھی یکتا ہے -

۱۔ لقمان ۱۳ .

(لم یلد) اس نے کسی کو جنم نہیں دیا کہ شبیہ و نظیر رکھتا ہو -
(ولم یولد) وہ ازلی و ابدی ہے ، حادث نہیں ہے کہ کسی چیز سے پیدا ہوا ہو -
(ولم یکن لہ کفواً احد) اور اس کا کوئی کفو اور نظیر نہیں ہے اور نہ شبیہ ہے نہ شریک۔
یہ سورہ ؛ خدا کی ذات اقدس سے شرک ، خرافات ، اوبام ، منحرف عقائد کی تمام جڑوں اور بنیادوں کی نفی کرتا ہے اور ہمارے لئے خالص اور پاک توحید پیش کرتا ہے -
روایتوں کے مطابق اس سورہ کی تمام آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر ہیں - (۱)

پہلا مرحلہ : (قل ہو) کہو وہ ہمارا خدا ہے - وہ جو بشر کی عقل اور فکر سے بالا اور آنکھوں سے غائب و پوشیدہ ہے -
اس مرحلہ میں تمام توجہ اس کی ذات پر ہے نہ کہ اس کی صفات پر - خود اس کی ذات محبوب اور معبود ہونے کے لئے کافی ہے - حضرت علی - فرماتے ہیں "و کمال الاخلاص نف الصفات عنہ" (۲) اخلاص کامل یہ ہے کہ اس کی صفتوں پر توجہ کنے بغیر اس کی ذات کو دیکھو - خدا کی عبادت ، خدا کے لئے کرو ، نہ اس لئے کہ اس نے تم کو فراواں نعمتیں دی ہیں -

دوسرا مرحلہ : (قل ہو) وہ اللہ ہے ، ایسا معبود ہے جس میں تمام کمالات پائے جاتے ہیں -
اس مرحلے میں ذات و صفات ایک ساتھ آئے ہیں - "اللہ" ایسی ذات ہے جس میں تمام نیک صفات پائی جاتی ہیں ، اسی لئے وہ عبادت کی شائستگی رکھتا ہے - چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے :

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۵ صفحہ ۷۱۴ .

۲۔ نہج البلاغہ خطبہ توحید .

(و اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوه بہا) (۱)

تمام اچھے نام اور اچھی صفتیں اس کے لئے ہیں پس اس کو انہیں ناموں سے یاد کرو -
خدا کو اس کے صفات کے ذریعہ سے پہچاننا دوسرے مرحلہ میں ہے "اللہ" ان تمام صفتوں کا مجموعہ ہے -
صفات کے ذریعہ سے خدا کی طرف توجہ ایسا راستہ ہے جو دعاؤں میں ، خصوصاً دعائے جوشن کبیر میں جلوہ گر ہے -
ہم اس میں خدا وند متعال کو ہزار صفتوں سے یاد کرتے ہیں -

تیسرا مرحلہ : (احد) وہ یکتا ہے اور یکتائی میں یگانہ و بے مثال ہے -
اس مرحلہ میں توحید ذات و صفات پیش ہو رہی ہے - اس کی ذات بھی یگانہ و بے مثل ہے اور اس کی صفتیں بھی بے مثل و بے نظیر ہیں - اس کی ذات و صفات ایک ہیں نہ یہ کہ اس کی صفتیں اس کی ذات سے الگ ہوں -
وہ ایسا واحد ہے جس کا دوسرا و تیسرا نہیں ، "واحد" اور "احد" میں فرق ہے - اگر ہم یہ کہیں کہ "کوئی ایک بھی نہیں آیا" یعنی کوئی نہیں آیا "لیکن اگر کہیں کہ "ایک نہیں آیا" یعنی ہو سکتا ہے کہ دو یا اس سے زیادہ لوگ آگئے ہوں - قرآن حکیم فرماتا ہے کہ وہ "احد" ہے نہ کہ "واحد" - وہ یکتا ہے نہ کہ ایک جس کا دوسرا اور تیسرا بھی ممکن ہے -

چوتھا مرحلہ : (اللہ الصمد) خدا بے نیاز ہے -

اس مرحلہ میں بے نیازی جو خدا کی ذات و صفات کا محور ہے جو خدا کی سب سے اہم صفت کے عنوان سے بیان ہو رہی

ہے وہ بھی خبر کی صورت میں نہیں جو فرمائے : (اللہ صمد)

۱۸۰۔ اعراف

بلکہ اللہ کے لئے مستقل اور دائمی صفت کی صورت میں ہے ۔ لہذا لفظ اللہ کی تکرار ہوئی (اللہ الصمد) وہ یکتا ہے لیکن بے نیاز ۔ اس کے علاوہ بہت ہیں لیکن سراسر نیاز مند اور تمام نیاز مندوں کی نظریں صرف اسی بے نیاز کی طرف ہیں ۔

پانچواں مرحلہ : (لم یلد و لم یولد و لم یکن لہ کفواً احد)

روایتوں کے مطابق یہ مرحلہ (اللہ الصمد) کی تفسیر ہے ۔ وہ بے نیاز ہے نہ اولاد کی ضرورت رکھتا ہے کہ اس کو پیدا کرے ۔ نہ ماں باپ کا محتاج ہے جو اسے پیدا کریں نہ اسے بیوی اور نظیر و معاون کی ضرورت ہے جو اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے ۔

اگر وہ پیدا ہو تو ازلی نہیں ہے اور اگر پیدا کرے تو ابدی نہیں ہے ۔ اس لئے کہ کمی و ضعف کی طرف جائے گا اور اگر اپنی طرح اور اپنے جیسا کوئی مثل رکھتا ہو تو بے مقابل اور بغیر رقیب کے نہیں اور خدا ان تمام امور سے پاک و منزہ ہے (سبحان اللہ عما یشرکون) (۱)

۱۔ طور ۴۳۔

نماز کی تفسیر

چھٹا باب

رکوع اور سجدے

رکوع

ارکان نماز میں سے ایک رکن ، رکوع بے بھولے سے یا جان بوجھ کر اگر رکن میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز باطل ہے لفظ " رکعت " جو نماز کے حصوں کی گنتی کے لئے بولا جاتا ہے وہ اسی لفظ رکوع سے بنا ہے قبیلہ بنی ثقیف نے رسول اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ نماز میں رکوع و سجود نہ ہوں اور وہ یہ کہتے تھے کہ جھکنا ہمارے لئے ننگ و عاری ہے ۔ تو آیت نازل ہوئی :

(و اذا قیل لہم ارکعوا لا یرکعون) (۱)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے ہیں (۲)

دوسرے لوگ اپنی طرح کے انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں لیکن آپ صرف اپنے خالق کے سامنے خم ہوں اور اسی کی تعظیم کریں ۔ جیسا کہ جب یہ آیت (فسبح باسم ربک العظیم) (۳) نازل ہوئی تو پیغمبر ﷺ نے حکم دیا کہ رکوع میں خدا کی تعظیم کرو اور رکوع میں اس ذکر " سبحان رب العظیم و بحمدہ " (۴) کو کہو ۔

ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ رکوع خدا کے سامنے ادب کی علامت اور پہچان ہے اور سجدہ قرب خدا کی پہچان لہذا جب تک ہم اچھی طرح اس کا ادب اور احترام نہ کریں اس کی قربت کے

.....

- ۱۔ مسلمات ۴۸۔
- ۲۔ بحار الانوار جلد ۸۵ صفحہ ۱۱۰۔
- ۳۔ واقعہ ۴۷۔
- ۴۔ جامع الاحادیث جلد ۲ صفحہ ۹۲۲۔

لائق نہیں ہو سکتے۔ (۱)

رکوع، خدا سے توبہ و استغفار اور معذرت خواہی کا راستہ ہے (فاستغفر ربہ و خرّ راکعاً و اناب) (۲)

رکوع کے اثرات

امام محمد باقر - فرماتے ہیں : " جو شخص اپنے رکوع کو اچھی طرح انجام دے وہ قبر کی وحشت سے امان میں ہے ۔ " (۳)

ہم خدا کے حضور جتنی دیر تک خم ہوں گے شیطان اور شیطان صفت لوگوں سے مقابلہ کرنے کی اتنی ہی زیادہ قدرت رکھیں گے ۔

امام صادق - فرماتے ہیں : " طویل رکوع اور سجدہ سے ابلیس غصہ میں آکر کہتا ہے مجھ پر وائے ہو ! یہ لوگ ، ایسی بندگی کی وجہ سے میری اطاعت نہیں کرتے ۔ !! (۴) پروردگار متعال فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو ہمارے بندے کس طرح سے ہماری تعظیم کرتے ہیں اور ہمارے سامنے رکوع کرتے ہیں ۔ میں بھی ان لوگوں کو بزرگ کروں گا اور ان لوگوں کو عزت و عظمت بخشوں گا ۔ (۵)

امام جعفر صادق - فرماتے ہیں :

طولانی رکوع اور سجدہ عمر کے طولانی ہونے میں مؤثر ہیں " (۶)

.....

- ۱۔ بحار الانوار جلد ۸۵ صفحہ ۱۰۸۔
- ۲۔ ص ۲۴۔
- ۳۔ وسائل جلد صفحہ ۹۲۸۔
- ۴۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۲۸۔
- ۵۔ جامع احادیث جلد ۵ صفحہ ۲۰۳۔
- ۶۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۲۸۔

آداب رکوع

ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ رکوع میں اپنی کمر کو ایسے کھینچتے تھے اور اسے اس طرح سیدھا رکھتے تھے کہ اگر پانی کا قطرہ کمر پر ڈالا جاتا تو کمر کے بیچ میں ٹھہر جاتا اور کسی طرف نہ بہتا۔ (۱)

تاکید ہوئی ہے کہ رکوع میں اپنی گردن سیدھی رکھو تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں چاہے ہماری گردن اس کی راہ میں چلی جائے ۔ (۲)

رکوع کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مرد اپنی کہنیوں کو پرندوں کے پروں کی طرح پھیلائیں نہ یہ کہ اپنی بغل میں چپکائیں ۔ ہاتھ کی ہتھیلی کو زانو پر رکھیں اور ہاتھ کی انگلیوں کو کھولیں ۔ دونوں پیر برابر ہوں یعنی آگے یا پیچھے نہ ہوں اور دونوں پیروں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو ۔

رکوع کرتے وقت نظر دونوں پیروں کے درمیان ہو اور ذکر رکوع کے بعد رکوع ہی کی حالت میں محمد ﷺ و آل محمد علیہم السلام پر صلوات پڑھیں ۔ البتہ ذکر رکوع کے بارے میں تاکید ہے کہ کم از کم تین بار پڑھا جائے ۔ (۳)

اولیائے خدا کا رکوع
امام جعفر صادق - فرماتے ہیں :
حضرت علی - اپنے رکوع کو اتنا طول دیتے تھے کہ آپ کی پنڈلی سے پسینہ بہنے لگتا

۱۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۴۲ .
۲۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۴۲ .

۳۔ یہ تمام آداب رکوع ، وسائل جلد چہارم مینصفحہ ۹۲۰ سے ۹۴۳ تک آئے ہیں ۔
تھا۔ " (۱)

خود حضرت علی - نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں :
خدا کے ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں اور کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔
البتہ فرشتوں کے یہاں تھکن اور بھوک نہیں پائی جاتی اسی لئے عارف و عاشق لوگ جب ایسے طولانی رکوع کرتے ہیں
تو فرشتے ان کی تعریف و تمجید کرنے لگتے ہیں - یہ اولیائے خدا کی حالت ہے لیکن ہماری حالت کیسی ہے ؟ حضرت
رسول اکرم ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے ، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز کے لئے کھڑا ہوا لیکن رکوع اور
سجود کو ادھورا اور جلدی بجا لایا - پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا : اس نے کوزے کی طرح چونچ ماری اور چلا گیا - اگر وہ اس
نماز کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو میرے دین پر نہیں مرے گا - (۲)

۱۔ بحار الانوار جلد ۸۵ صفحہ ۱۱۰ .
۲۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۲۲ .

نماز کی تفسیر

سجدے

سجدہ کی تاریخ

حضرت آدم - کی خلقت کے بعد خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں - (1) ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا -
خدا وند متعال نے اس کو اسی نافرمانی کی بنا پر اپنی بارگاہ سے نکال دیا -
قرآن مجید نے اس واقعہ کی بار بار تکرار کی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم کی تکرار

1۔ البتہ سجدہ خدا سے مخصوص ہے انسان صرف فرشتوں کا قبلہ قرار پایا .

بلا و جہ نہیں ہے گویا کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے انسان ! تمام فرشتے تمہاری وجہ سے سجدہ میں گرے - کیوں تم خداوند خالق
کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ؟ اے انسان ! ابلیس تمہارے سجدہ کے انکار کی وجہ سے نکالا گیا تو اب تم خدا کے سجدہ

سے انکار کرنے کی صورت میں کیا امید رکھتے ہو؟ -
ابلیس نے تمہارا سجدہ نہیں کیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں انسان سے افضل ہوں۔ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو؟ کہ ہم خدا سے افضل ہیں؟ تم ایک وقت کچھ بھی نہیں تھے اور جب دنیا میں آئے تو تمہارا پورا بدن ضعیف و ناتوان اور عاجز تھا اور آخر میں اسی عاجزی کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے۔ خالق ہستی کے سامنے کس لئے تکبر کرتے ہو؟!
بہر حال بشر کی خلقت کے بعد سب سے پہلا حکم الہی سجدہ کا حکم تھا۔

سجدہ کی اہمیت

سجدہ : خدا کے سامنے انسان کی بہترین حالت ہے۔

سجدہ : خدا سے تقرب کا بہترین راستہ ہے (و اسجد و اقترب) (۱)

پیغمبر اکرم ﷺ کے وفادار ساتھیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدہ کے اثرات دکھائی دیں (سیما ہم ف وجوہہم من اثر السجود) (۲)

سجدہ : انسان کو عالم ہستی کے ہم رکاب اور اس سے ہم آہنگ بنا دیتا ہے اس لئے کہ آسمان و زمین کی تمام موجودات ، ستاروں سے لے کر سبزے تک سب خدا کی بارگاہ میں ساجد و خاضع ہیں (و لله يسجد ما ف السموات و ما ف الارض) (۳)
(و النجم و الشجر يسجدان) (۴)

-
- ۱۔ یہ سورنہ علق کی آخری آیت ہے یہ ان چار آیتوں میں سے ہے جن کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔
 - ۲۔ فتح ۲۹۔
 - ۳۔ نحل ۴۹۔
 - ۴۔ رحمن ۶۔

سجدہ : فرشتوں کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ حضرت علی - ارشاد فرماتے ہیں : آسمان کے طبقوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس پر فرشتوں کا ایک گروہ سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ (۱)
سجدہ : عبودیت و بندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس لئے کہ انسان اپنا سب سے بلند مقام یعنی پیشانی کو خاک پر رگڑتا ہے اور خدائے عزیز و قادر کے سامنے ذلت و عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔
سجدہ : دنیا کے بلند مرتبہ مردوں اور عورتوں کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خدا اپنے پیغمبر ﷺ کو سجدے کا حکم دیتا ہے وہ صرف دن میں ہی نہیں بلکہ رات میں بھی۔
(و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا طويلا) (۲) پاک اور عابدہ خاتون حضرت مریم سے خطاب ہوا (یا مریم اقتن لربك و اسجد) (۳)
جو سجدہ رکوع کے بعد ہو وہ اس سے کامل تر و بالا تر مرحلہ ہے اور نماز پڑھنے والے کو خضوع کی آخری بلندی تک پہنچاتا ہے۔

اسی لئے قرآن کریم میں یہ دونوں معمولاً ایک دوسرے کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں (ياايها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا) (۴)
(ترہیم رکعاً سجداً) (۵)

سجدہ : خداوند عالم کی نشانیوں پر ایمان کی علامت ہے۔

(انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجداً) (۶)

رات کے سجدے : خدا کے صالح بندوں کی نشانی ہیں (عباد الرحمن و الذين يبيتون لربهم سجداً و قياماً) (۶)

.....

- ۱۔ نہج البلاغہ خطبہ ۹۱۔

۲۔ نسان ۲۶۔

۳۔ آل عمران ۴۳۔

۴۔ حج ۷۷۔

۵۔ فتح ۲۹۔

۶۔ سجدہ ۱۵۔

سجدہ : نماز کی زینت ہے لہذا اس کو اچھی طرح بجالائیں ۔

امام صادق - فرماتے ہیں :

نماز پڑھتے وقت اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح انجام دیا کرو کیونکہ خداوند عالم اس کی جزا سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے ۔

سجدہ : کی وجہ سے خدا فرشتوں پر افتخار کرتا ہے لہذا خدا کی عنایت اس کے ساتھ ہے ۔ یہاں تک کہ ہر سجدہ میں ایک گناہ ختم اور عظیم جزا (سجدہ کرنے والے کے نام) لکھی جاتی ہے ۔ (۱)

حضرت علی - نے فرمایا : اگر انسان یہ جان لے کہ سجدہ کے وقت کتنی رحمتوں نے اسے ڈھانپ رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدہ سے سر نہ اٹھائے گا ۔ (۲)

سجدہ: خود خواہی اور غرور کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو تکبر سے نجات دیتا ہے ۔ (۳)

پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا : ہم اپنے امتیوں کو قیامت کے روز ان کی پیشانی پر موجود سجدہ کے اثرات سے پہچانیں گے ۔ (۴) اور وہ زمین جس پر سجدہ ہوا ہے وہ انسان کی عبادت کی گواہی دے گی (۵) اور دنیا میں بھی اس جگہ سے آسمان کی طرف ایک نور جاتا ہے (۶) رکوع کی طرح طولانی سجدے بھی انسان کی نعمت کی بقا اور عمر کے طولانی ہونے کا

سبب ہیں ۔ (۷)

سجدہ اتنا اہم ہے کہ پروردگار، حضرت ابراہیم - جیسے عظیم الشان پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ مسجد الحرام کو، طواف،

قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک کرو ۔ (۸)

- ۱۔ جامع احادیث جلد ۵ صفحہ ۴۶۶۔
- ۲۔ جامع الاحادیث ج ۵ ص ۸۲۔
- ۳۔ جامع الاحادیث ج ۵ ص ۵۳۔
- ۴۔ مسند احمد حنبل جلد ۴ صفحہ ۱۸۹۔
- ۵۔ جامع الاحادیث جلد ۵ صفحہ ۱۸۹۔
- ۶۔ مستدرک الوسائل جلد ۴ صفحہ ۴۸۵۔
- ۷۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۲۸۔
- ۸۔ بقرہ ۱۲۵۔

سجدہ کی حکمتیں

لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی - سے سجدہ کی حکمتوں کے بارے میں سوال کیا حضرت نے فرمایا : پہلا سجدہ، یعنی شروع میں خاک تھا اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے ہو یعنی خاک سے دنیا میں آئے ہو۔ دوسرا سجدہ یعنی دوبارہ خاک میں پلٹ کر جاؤ گے اور اس سے سر اٹھانا یعنی قیامت کے دن قبر سے اٹھو گے اور محشور ہو گے ۔ (۱)

امام صادق - فرماتے ہیں : " چونکہ سجدہ خدا کے لئے ہے لہذا کھانے اور پینے والی چیزوں پر جو دنیا والوں کی توجہ کی چیز ہے سجدہ نہیں کرنا چاہیئے ۔ سجدہ انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرے نہ کہ پیٹ اور لباس یا مادی چیزوں کی طرف (۲)

ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کمی و زیادتی یا بے جا کلام یا قیام اور قعود کی بنا پر اس لئے سجدہ سہو کیا جاتا ہے کہ ابلیس نے تمہاری توجہ کو ہٹا دیا اور تمہاری نماز میں خلل ڈال دیا پس نماز کے بعد تم دو سجدہ سہو بجا لاؤ تاکہ اس کی ناک مٹی میں رگڑ جائے اور وہ جان لے کہ وہ تمہارے اندر جو بھی لغزش پیدا کرے گا تم دوبارہ خدا کے سامنے سجدہ کر لو گے (۳)

حضرت علی - فرماتے ہیں کہ : سجدہ کا ظاہر، اخلاص و خشوع کے ساتھ پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے لیکن اس کا باطن، تمام فنا ہونے والی چیزوں سے رشتہ توڑ لینا اور عالم آخرت و بقا سے لو لگانا ہے ۔ اسی طرح یہ تکبر، تعصب اور دنیا سے ہر قسم کی وابستگی سے رہائی ہے۔

.....
۱۔ بحار الانوار جلد ۸۵ صفحہ ۱۳۹ .

۲۔ الفقیہ جلد ۱ صفحہ ۲۷۲ .

۳۔ وافی جلد ۸ صفحہ ۹۹۲ .

آداب سجدہ

روایتوں میں جو آداب سجدہ آئے ہیں ان میں سے بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کر رہے ہیں -
رکوع کے بعد سجدہ میں جانے کے لئے زانو و نسیں پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا اور سجدہ کرتے وقت ہاتھ کانوں کے برابر ہوں - مردوں کی کہنیاں زمین پر نہ چپکیں اور دونوں کہنیاں پروں کی طرح کھلی ہوں - فقط پیشانی ہی نہیں بلکہ ناک بھی زمین پر رکھی جائے - جس وقت نماز پڑھنے والا دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو داہنے پیر کے اوپری حصہ کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھے، اس طرح سے کہ بدن کا وزن بائیں پیر پر ہو اس لئے کہ بائیں باطل کی علامت ہے اور داہنا حق کی علامت ہے -

سجدہ میں واجب ذکر کے علاوہ صلوات پڑھے، دعا کرے اور خوف خدا سے آنسو بہائے - سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہے اور تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرے - (۱)

خاک کربلا

اگرچہ ہر پاک مٹی پر بلکہ ہر پاک پتھر اور لکڑی پر سجدہ جائز اور صحیح ہے لیکن تربت امام حسین (خاک شفا) فضیلت رکھتی ہے - امام صادق - خاک کربلا کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ نہیں کرتے تھے -
خاک کربلا پر سجدہ ؛ ساتوں حجاب پارہ کرتا ہے ، نماز کو بلند کرتا ہے اور اسے قبولیت تک پہنچاتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو بھی مادیات کے گڑھے سے باہر نکال کر اسے جہاد اور خون و شہادت سے روشناس کراتا ہے -

۱۔ مستدرک الوسائل ج ۴ ص ۴۸۴ .

خاک حسین - پر سجدہ : یعنی امامت و ولایت کے ساتھ نماز -

خاک حسین - پر سجدہ : یعنی شہادت کے ساتھ نماز -

خاک حسین - پر سجدہ : یعنی ان لوگوں کی یاد کو عظیم سمجھنا جن لوگوں نے نماز کے لئے اور نماز کی راہ میں خون دیا -
خاک حسین - پر سجدہ : یعنی ہر روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے -

خاک حسین - پر سجدہ : یعنی ظلم سے مقابلہ کرنے کے لئے سر اور جان دیدولیکن خود کو ذلت کے حوالے نہ کرو -

جی ہاں ! مزار حسین - جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے - حضرت کے گنبد کے نیچے دعا مستجاب اور اس جگہ پر نماز محبوب و مقبول ہے -

اس خاک سے جو تسبیح بنے اگر وہ ہاتھ میں صرف گھومتی رہے تو اس کے لئے " سبحان اللہ " کی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے چاہے زبان سے کچھ نہ کہا جائے اور اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ تسبیح گھمائی جائے تو ہر ذکر پر ستر گنا ثواب ملتا ہے -

واضح رہے کہ خاک کربلا کی جوابدہیت نقل ہوئی ہے وہ امام حسین - کی قبر کے چار میل کے دائرے تک شامل ہے - (۱)

.....
۱۔ اس بحث کے مطالب ، کتاب کامل الزیارات میں باب نمبر ۸۹ کے بعد آئے ہیں .

نماز کی تفسیر

سجدتہ شکر

سجدہ صرف نماز سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ دوسری جگہ بھی ہوتا ہے - حتیٰ کہ بھی واجب ہوتا ہے جیسے ان چار آیتوں میں سے کسی ایک کی تلاوت کرنے سے جو سجدہ کا سبب بنتی ہیں -

شکر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ سجدہ شکر ہے جس کے لئے بہت تاکید ہوئی ہے -

سجدتہ شکر : یعنی خدا کی ختم نہ ہونے والی ان نعمتوں پر شکر جو ہمارے اور ہمارے گھر والوں پر نازل ہوئی ہیں -

امام صادق - فرماتے ہیں :

جس وقت خدا کی کوئی نعمت یاد آئے اپنی پیشانی کو شکر کے لئے زمین پر رکھو اور اگر لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں تو اس نعمت کے احترام میں تھوڑا سا خم ہو جاؤ - (۱)

پیغمبر اکرم ﷺ کو دیکھا گیا کہ آپ اونٹ سے نیچے اترے اور آپ نے پانچ سجدے کئے اور فرمایا : جبرئیل امین میرے اوپر نازل ہوئے اور مجھے پانچ بشارتیں دیں اور میں نے ہر بشارت کے لئے ایک سجدہ کیا ہے - (۲)

حضرت علی - کہی سجدتہ شکر میں بیہوش ہو جاتے تھے (۳) اور امام زمانہ (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) سے نقل ہوا ہے کہ لازم ترین سنت سجدتہ شکر ہے - (۴)

سجدتہ شکر میں ہر ذکر اور دعا جائز ہے لیکن " شکر اللہ " اور " الحمد للہ " کہنے اور ولایت اہل بیت % کی عظیم نعمت کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے - (۵)

خداوند عالم فرماتا ہے : جو شخص میرے لئے سجدتہ شکر کرے اس کا انعام یہ ہے کہ ہم بھی اس کا شکر یہ ادا کریں - (۶)

اگرچہ سجدتہ شکر کے لئے کوئی جگہ اور وقت معین نہیں ہے لیکن اس کا بہترین وقت نماز کے بعد ، تعقیبات نماز کے عنوان سے ہے -

- ۱۔ وافی ج ۸ ص ۸۲۵ .
- ۲۔ محجة البيضاء جلد ۱ صفحہ ۳۴۶ .
- ۳۔ جامع الاحادیث جلد ۵ صفحہ ۴۵۹ .
- ۴۔ جامع الاحادیث جلد ۵ صفحہ ۴۵۳ .
- ۵۔ جامع الاحادیث جلد ۵ صفحہ ۴۶۹ .
- ۶۔ الفقیہ جلد ۱ صفحہ ۳۳۴ .

سجدتہ شکر کی برکتیں

روایات میں سجدتہ شکر کی برکتیں کافی نقل ہوئی ہیں - ہم اختصار کے طور پر ان کی فہرست ذکر کرتے ہیں -

اگر نماز میں کوئی نقص پیدا ہو جائے اور وہ نوافل سے ہر طرف نہ ہو تو سجدتہ شکر اس کو پورا کر دیتا ہے - سجدتہ شکر کا نتیجہ خدا کی رضایت ہے ، یہ انسان اور فرشتوں کے درمیان فاصلہ کو ختم کرتا ہے ، سجدہ میں دعا مستجاب ہوتی ہے ، دس صلوات کا ثواب ملتا ہے اور دس بڑے گناہ ختم ہوجاتے ہیں -

سجدتہ شکر کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ خداوند عالم اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے -

(۱)

اولیائے خدا کے سجدے

امام صادق - فرماتے ہیں : حضرت ابراہیم - اس لئے خلیل خدا بنے تھے کہ وہ خاک پر سجدہ زیادہ کرتے تھے - (۲)

جس رات یہ طے پایا کہ حضرت علی - رسول اکرم ﷺ کے بستر پر سو جائیں تاکہ آنحضرت ﷺ دشمنوں کی تیغ سے محفوظ

رہیں۔ حضرت علی نے رسول خداؐ سے سوال کیا: "اگر میں یہ کام انجام دوں تو کیا آپؐ کی جان بچ جائے گی؟" جب پیغمبرؐ نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت علیؓ - مسکرائے اور اس توفیق کے شکر میں سجدہ کیا۔ (۳)

- ۱۔ الفقیہ جلد ۱ صفحہ ۳۳۱۔
 ۲۔ بحار الانوار جلد ۸۵ صفحہ ۱۶۳۔
 ۳۔ وافی جلد ۸ صفحہ ۸۸۲۔

جس وقت مشرکین کے لیڈر، ابو جہل کا کٹا ہوا سر رسول اللہؐ کی خدمت میں لایا گیا تو آپؐ سجدہ شکر بجا لائے۔ (۱)
 امام سجاد - ہر نماز کے بعد، اس کو بجا لانے کے شکر میں، سجدہ کرتے تھے اور جب آپ سے کوئی بلا دور ہو جاتی تھی یا آپ دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت کراتے تھے تو اسی وقت اس کے شکر کے لئے سجدہ کرتے تھے۔ آپ اپنے سجدوں کو اتنا طول دیتے تھے کہ پسینہ میں ڈوب جاتے تھے۔ (۲)

چند نکتے

- (۱) سجدہ کرنے کی جگہ اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد سجدہ کرنے کی جگہ پر ہاتھ لگا کر اپنے بدن اور چہرے پر پھیرو تاکہ امراض و آفات اور مشکلات سے محفوظ رہو۔ (۳)
 (۲) کوشش کریں کہ نماز مغرب کے بعد سجدہ شکر کو فراموش نہ کریں اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ (۴)
 امام صادق - نے فرمایا: جو شخص اذان و اقامت کے درمیان سجدہ کرے اور سجدہ میں کہے کہ "سجدت لک خاضعا خاشعا ذلیلا" خدا مؤمنین کے دلوں میں اس کی محبت اور منافقین کے دلوں میں اس کی بیعت بیٹھا دیتا ہے۔ (۵)
 (۳) سجدہ خدا سے مخصوص ہے اور خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ (۶)

- ۱۔ جامع الاحادیث جلد ۵ صفحہ ۴۷۵۔
 ۲۔ بحار الانوار جلد ۸۵ صفحہ ۱۳۷۔
 ۳۔ سفینة البحار۔
 ۴۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۰۵۸۔
 ۵۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۶۳۳۔
 ۶۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۸۶۔

جس وقت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار نے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دے اور ان کو وہاں سے نکال دے، اس زمانے کی رسم کے مطابق قریش کا نمائندہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے سجدہ میں گر پڑا لیکن مسلمانوں کا نمائندہ جو حضرت علیؓ - کے بھائی جناب جعفر تھے انہوں نے اسے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ ہم خداوند عالم کے علاوہ کسی بھی چیز کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ (۱)
 حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا یوسف کے سامنے سجدہ کرنا، یوسف کو سجدہ نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ خدا کے لئے تھا لیکن وصال یوسف کی نعمت ملنے پر خدا کا شکر تھا (وخرّوا لہ سجدا) (۲)۔

- ۱۔ مسند احمد حنبل جلد ۱ صفحہ ۴۶۱۔
 ۲۔ یوسف ۱۰۰۔

نماز کی تفسیر

ساتواں باب

ذکر تسبیح

سبحان الله

نماز پڑھنے والا رکوع اور سجود میں خداوند متعال کی تسبیح کرتا ہے۔ جس وقت آیت (فسبح باسم ربك العظيم) (۱) نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: اس حکم کو اپنے رکوع میں قرار دو اور کہو "سبحان رب العظيم و بحمدہ" میرا عظیم پروردگار کہ میں نے جس کی تعریف میں لب ہلائے وہ ہر عیب و برائی سے پاک ہے " اور جب یہ آیت (سبح اسم ربك الاعلیٰ) (۲) نازل ہوئی تو فرمایا اس کو اپنے سجدہ میں قرار دو اور کہو "سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ" ہم ہمیشہ اپنے پروردگار کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں جو سب سے بڑا اور بزرگ و برتر ہے۔"

تسبیح کا مرتبہ

خدا کی تسبیح و تنزیہ، اسلام کے سارے صحیح عقائد و افکار کی جڑ ہے۔
توحید: یعنی خدا کو شرک سے پاک سمجھنا (سبحان الله عما یشرکون) (۳)
عدل: یعنی خدا کو ظلم سے پاک سمجھنا (سبحان الله انا کنا ظالمین) (۴)
نبوت و امامت: یعنی خدا کو بے مقصد، غیر منظم اور لوگوں کو دریائے بوس میں چھوڑ دینے سے پاک سمجھنا (و ما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی

۱۔ واقعہ ۷۴۔

۲۔ اعلیٰ ۱۔

۳۔ طور ۴۳۔

۴۔ قلم ۲۹۔

بشر من شیئی) (۱)

وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا در حالیکہ خدا کو اچھی طرح نہیں پہچانتے ہیں۔
معاد: یعنی خدا کو اس سے پاک سمجھنا کہ اس نے دنیا کو عبث اور باطل خلق کیا ہے اور دنیا کے سر انجام کو نابودی قرار دیا ہے (ریتا ما خلقت هذا باطلا سبحانک) (۲)
(افحسبتم انما خلقتنا کم عبثا و انکم الینا لا ترجعون) (۳) کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے؟ جی ہاں خداوند عالم اس عبث اور بیہودہ امر سے پاک و منزہ ہے۔
تسبیح خدا: تسبیح خدا فقط عقائد اسلامی کا سرچشمہ نہیں ہے بلکہ بہت سے روحی و معنوی کمالات کا ذریعہ ہے۔
سبحان الله: رضائے الہی کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم اس کو ہر عیب سے پاک سمجھیں تو اس کے مقدر ات پر راضی ہوں گے اور اس کی حکیمانہ مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔
سبحان الله: توکل کا سرچشمہ ہے۔ جو ذات ہر محتاجی سے دور اور ہر ضعف اور عاجزی سے پاک ہو، اس پر کیسے انحصار اور توکل نہ کریں؟ (سبحانہ هو الغن) (۴)
سبحان الله: خدا سے عشق کی بنیاد ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ انسانوں کا محبوب ہے اور انسان اسی سے والہانہ محبت کرتا ہے۔
سبحان الله: خدا کی حمد و ثنا کی ابتداء ہے۔ ایسی ذات کی ثنا جس تک کوئی بھی برائی

-
۱. انعام ۹۱ .
 ۲. آل عمران ۱۹۱ .
 ۳. مؤمنون ۱۱۵ .
 ۴. یونس ۶۸ .

اور ناپسندیدہ چیز نہ پہنچے۔ اسی لئے تسبیحات اربعہ میں " سبحان الله " " الحمد لله " سے پہلے آیا ہے۔
 سبحان الله : تمام بشری خرافات و توہمات اور بدعتوں سے نجات کی کنجی ہے (سبحان الله رب العرش عما يصفون) (۱)
 شاید یہی وجوہات ہیں کہ قرآن مجید میں تسبیح الہی کا حکم دوسرے انکار سے زیادہ آیا ہے۔ تسبیح کا حکم ۱۶ مرتبہ ،
 استغفار کا حکم ۸ مرتبہ ، ذکر خدا کا حکم ۵ مرتبہ اور تکبیر کا حکم ۲ مرتبہ آیا ہے۔ وہ بھی ہر حال اور ہر وقت تسبیح کا
 حکم ہے تاکہ انسان ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہے اور ہمیشہ اس کو ہر عیب اور برائی سے پاک سمجھے۔
 (و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح و اطراف النهار) (۲)
 خوشی اور کامیابی کے موقع پر خدا کی تسبیح کرو (اذا جاء نصر الله و الفتح .. فسبح بحمد ربك) (۳)
 سختی و مشکلات اور پریشانی میں بھی تسبیح کرو اس لئے کہ تسبیح نجات کا ذریعہ ہے (فلولا انہ كان من المسبحين لليبث ف
 بطنه الى يوم يبعثون) (۴) پھر اگر وہ (حضرت یونس) تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی
 (مچھلی) کے شکم میں رہ جاتے۔
 ہاں انسان اپنی فراواں حد بند یوں کی بنا پر خدا وند متعال کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ضعف کا
 اقرار کرے اور کہے کہ تو فکر و خیال کی رسائی سے پاک ہے اور جو دوسرے لوگ تیری تعریف کرتے ہیں اس سے بلند
 و بالاتر ہے (سبحانہ و تعالیٰ عما

-
۱. انبیاء ۲۲ .
 ۲. طہ ۱۳۰ .
 ۳. سورہ نصر .
 ۴. صافات ۱۴۳ ، ۱۴۴ .

يقولون علواكبيراً) (۱)
 صرف اللہ کے مخلص بندے ہیں جو اللہ کی مدد اور رہنمائی کے ذریعہ خدا کو پہچنوا سکتے ہیں (سبحان الله عما يصفون الا
 عباد الله المخلصين) (۲)

تسبیح کا ثواب
 امام صادق - رسول خدا ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ (سبحان الله) کہتا ہے تو جو چیز بھی عرش الہی کے
 نیچے ہے وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور اس لفظ کے کہنے والے کو دس گنا جزا ملتی ہے اور جس وقت (الحمد لله)
 کہتا ہے تو خدا اسے دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے تاکہ اسی حالت میں خدا سے ملاقات کرے اور آخرت کی نعمتوں میں داخل ہو
 جائے۔ (۳)

-
۱. اسراء ۴۳ . ۲. صافات ۱۵۹ ، ۱۶۰ .
 ۳. وسائل جلد ۷ صفحہ ۱۸۷ .

نماز کی تفسیر

عملی تسبیح

امام صادق - نے فرمایا کہ سخت ترین اور اہم ترین کاموں میں سے ایک کام جس کو خدا نے مخلوقات کے اوپر ضروری کیا ہے وہ ذکر کثیر ہے - اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ : ذکر سے مراد (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر) نہیں ہے گرچہ یہ بھی اس کا جز ہے لیکن ذکر سے مراد (ذکر الله عند ما احل و حرم) یعنی کوئی بھی کام کرتے وقت خدا کو یاد رکھنا ہے ، یعنی اگر خدا کی اطاعت ہے تو اسے انجام دے اور اگر اس کی معصیت ہے تو اس کو انجام نہ دے - (1)

1 . کافی جلد ۲ صفحہ ۸۰ .

تسبیح کی تکرار

ایک شخص امام صادق - کے گھر میں داخل ہوا آپ کو رکوع کی حالت میں دیکھا کہ آپ خدا کی تسبیح میں مشغول ہیں اور آپ نے رکوع میں ۶۰ مرتبہ تسبیح کی تکرار کی اور سجدہ میں ۵۰۰ مرتبہ (۱) تسبیح کی تکرار فقط نماز ہی میں نہیں بلکہ اعمال حج میں بھی ہے - حجر اسود پر نگاہ کرتے وقت ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت اور دوسری جگہوں پر تسبیح کی تکرار کی تاکید کی گئی ہے - جس طرح نماز میں رکوع و سجود کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کی تکرار ہے اور شیعہ سنی روایتوں کے مطابق ، سورئہ کہف آیت نمبر ۴۶ میں باقیات الصالحات سے مراد یہی تسبیحات اربعہ ہیں - (۲) حضرت علی - کے ارشاد کے مطابق خانہ کعبہ بناتے وقت حضرت ابراہیم - کا ذکر (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر) تھا (۳)

ہمارے اسلاف کے تمدن میں خداوند عالم کا ذکر اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اسلامی تمدن میں ہمارے بزرگوں کے درمیان ذکر خدا کا کیا مقام رہا ہے ، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں اور اس کی اہمیت کا پتہ لگائیں - ہمارے مومن ماں باپ تعجب کے وقت کہتے ہیں " ماشاء الله " " سبحان الله " گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کہتے ہیں " یا الله " ایک دوسرے سے رخصت ہوتے وقت " خدا حافظ " اٹھتے وقت

۱- وافی جلد ۲ صفحہ ۱۰۷ .

۲- تفسیر المیزان جلد ۱۳ صفحہ ۵۴۰ .

۳- وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۲۰۷ .

" یا علی " کام کی تھکن دور کرنے کے لئے " خدا قوت " خیریت پوچھنے کے جواب میں " الحمد لله " کہانا کہانے کے لئے " بسم الله " اور کہانا کہانے کے بعد دستر خوان کی دعا اور شکر خدا - دادی ، نانی قصہ کہانی کو یہاں سے شروع کرتی تھیں کہ " کوئی تھا کوئی نہ تھا خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا - " ظاہر ہے کہ ایسے ماحول اور ایسی آغوش میں تربیت سے ! ہمیشہ اور ہر وقت دلوں میں خدا کی یاد اور زبانوں پر اس کا نام جاری ہو تا رہتا ہے - لیکن ہمارے اوپر ایک تاریک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب خدا کے نام کو بھلا دینے جانے کے ساتھ ساتھ شہر کے در و دیوار حتی کپڑوں پر اور ہر جگہ مغربی تمدن اور ان کے فلمی ستاروں کی تصویریں تھیں - لیکن انقلاب کے سایہ میں شہروں کے در و دیوار ، سڑکوں اور بورڈوں پر دوبارہ ذکر کی تصویر ابھر کر سامنے آئی ہے

موجودات کی تسبیح

ساری موجودات ، ساتوں آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کرنے والے ہیں (۱) چاہے جاندار جیسے پرندے ہوں اور چاہے بے جان ہوں جیسے پہاڑ (۲) نیز بجلی اور چمک (۳) وہ بھی ایسی تسبیح جو شعور اور آگاہی کے ساتھ ہو (کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ) (۴) فرشتوں کی تسبیح اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا آسمانوں پر ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے نماز و تسبیح میں مشغول نہ ہوں۔ (۵)

.....

- ۱۔ جمعہ ۱۔
- ۲۔ انبیاء ۷۹۔
- ۳۔ رعد ۱۳۔
- ۴۔ نور ۴۱۔
- ۵۔ تفسیر قرطبی جلد ۸ صفحہ ۵۵۸۱۔

امام صادق - فرماتے ہیں : جس وقت حضرت داؤد - زبور پڑھتے تھے تو کوئی پہاڑ ، پتھر اور پرندہ ایسا نہیں تھا جو ان کی آواز سے آواز نہ ملتا ہو۔ (۱) روایتوں میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جانوروں کے منہ پر نہ مارو اس لئے کہ وہ تسبیح پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ (۲)

گر تو را از غیب چشمی باز شد
با تو ذرات جہان ہمراز شد
نطق آب و نطق خاک و نطق گل
ہست محسوس حواس اہل دل
جملہ ذرات عالم در نہان
باتو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و ہوشیم
با شما نا محرمان ما خاموشیم

ترجمہ : اگر تیری آنکھ عالم غیب کا مشاہدہ کر لے تو اس عالم کے ذرات بھی تیرے ہم راز ہو جائیں گے۔ پانی کی گفتگو ، خاک کی ہم کلامی اور پھولوں کی نطق بیانی اہل دل کے لئے سب کچھ محسوس و روشن ہے۔ اس کائنات کے ذرے خاموشی کے ساتھ تجھ سے ہر روز اور ہر شب کہتے ہیں : ہم تو سنتے بھی ہیں ، دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے ہوش و حواس قائم ہیں لیکن تم نا محرموں کے سامنے ہم خاموش اور ساکت ہیں۔ چڑیوں کا ایک جھنڈ ، امام سجاد - کے سامنے سے چیں چیں کرتا ہوا گزرا۔ آپ اپنے

.....

- ۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۳ صفحہ ۴۴۴۔
- ۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۳ ۱۶۸۔

ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا : پرندے ہر صبح خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے دن کی روزی کے لئے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ (۱) رسول خدا ﷺ نے فرمایا حیوانات کی موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ تسبیح خدا کو فراموش کر دیتے ہیں۔ (۲)

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودات کی تسبیح اور سجدے مجازی ہیں نہ حقیقی جس طرح ایک اچھی تصویر ، اس تصویر کے بنانے والے کے بھرپور ذوق اور سلیقہ یا شاعر کا دیوان شاعر کی خوش طبعی کی گواہی دیتا ہے اسی طرح موجودات کی اسرار آمیز خلقت خدا کے علم ، قدرت ، حکمت اور اس کی باریک بینی کی گواہی دیتی ہے اور اس کو ہر عیب اور برائی سے دور قرار دیتی ہے اور یہی موجودات کی تسبیح کے معنی ہیں۔

جبکہ اول تو اس دعوے کی کوئی دلیل و شاہد نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ تاویل یا تحلیل وہاں پر ہوتی ہے جہانظاہری معنی محال اور مشکل ہوں جیسے یہ آیت (ید اللہ فوق ایدیہم) (۳) ہم بخو بی جانتے ہیں کہ خداوند متعال کا ہاتھ ہونا محال ہے لہذا کہیں گے (ید اللہ) سے مراد قدرت الہی ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ معانی سمجھ میں نہیں آتے ہمیں اس کی تاویل کا حق حاصل نہیں ہے، ہم کیسے تاویل کریں گے؟ جبکہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے:

(و ان من شیء الا یسبح بحمدہ و لکن لا تفقہون تسبیحہم) (۴) اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ ہم کیسے تاویل کر سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن فرماتا ہے (و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً) (۵) اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

-
- ۱۔ تفسیر المیزان جلد ۱۳ صفحہ ۲۰۶۔
 - ۲۔ تفسیر المیزان جلد ۱۳ صفحہ ۲۰۳۔
 - ۳۔ فتح ۱۰۔
 - ۴۔ اسراء ۴۴۔
 - ۵۔ اسراء ۸۵۔

آنحضرتؐ کا علم اگرچہ لا محدود علم کے سرچشمہ سے وابستہ ہے اس کے باوجود قرآن حکیم میں آپ کا یہ قول نقل ہوا ہے (ان ادری) (۱) یعنی میں نہیں جانتا، تو اگر ہم بھی کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے اور ہم نہیں سمجھتے تو کیا ہو جائے گا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے جہل اور نادانی کا صریحاً اعلان بھی کر دیا (ولکن لا تفقہون تسبیحہم) لیکن مغرور بشر اس بات کے لئے حاضر نہیں ہے کہ عالم ہستی کے وہ اسرار جن میں موجودات کی تسبیح بھی ہے ان کے بارے میں یہ اقرار کر لے کہ ہم نہیں سمجھتے۔

کیا قرآن مجید واضح طور سے نہیں کہہ رہا ہے کہ ہدہد جب قوم سبا کی خورشید پرستی سے آگاہ ہوا تو اس نے اس کی خبر حضرت سلیمان - کو دی اور کہا ملک سبا میں ایک عورت ہے جو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہے اور اس کی رعیت سورج کی پوجا کرتی ہے۔ (۲)

کہاں ہدہد اور کہاں علاقہ کا نام، عورت کو مرد سے، شاہ کو رعیت سے، توحید کو شرک سے جدا کرنا اور انہیں پہچان لینا؟! یہ سب موجودات کے شعور کی نشانیاں ہیں۔

کیا قرآن مجید نہیں کہتا ہے ایک چیونٹی نے ساری چیونٹیوں سے کہا: "اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ ادھر سے حضرت سلیمان - کا لشکر گزرنے والا ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ نا سمجھی میں تمہیں روندھ ڈالیں۔"

ان آیتوں میں انسانوں کی حرکت کی پہچان، ان کا نام (سلیمان)، ان کا پیشہ (فوجی)، ان کا اپنے پیروں کے نیچے توجہ نہ ہونا اور اس چیونٹی کی دوسری چیونٹیوں کے لئے ہمدردی، یہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے لئے موجودات اور عالم ہستی کے اندر پائے جانے والے شعور اور ان کے سمجھنے کی طاقت کو بیان کرتے ہیں۔

اب اگر ہم ان کے شعور کو قبول کر لیں اور نص قرآن کے مطابق اسے قبول کرنا ضروری ہے تو اس کے بعد موجودات کی تسبیح کے سلسلے میں کسی توجیہ اور تاویل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

-
- ۱۔ قرآن میں اس جملہ کی چار مرتبہ تکرار ہوئی ان میں سے ایک سورہ انبیاء آیت ۱۰۹ بھی ہے۔
 - ۲۔ نمل ۲۲، ۲۷۔

نماز کی تفسیر

آٹھواں باب

قنوت

لغت میں قنوت کے معنی ایسی اطاعت کے ہیں جو خضوع کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ خداوند عالم حضرت مریم * سے خطاب فرماتا ہے (یا مریم اقنت لربک) (۱) لیکن نماز میں قنوت سے مراد وہی دعا ہے جسے ہم ہر نماز کی دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں۔ حضرت امام صادق - اس آیت (تَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا) (۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ (تَبَتَّلَ) یعنی ہاتھوں کو نماز میں دعا کے لئے بلند کریں۔ (۳)

لغت میں "تَبَتَّلَ" کے معنی غیر خدا سے قطع امید کرنا ہے۔ (۴)

قرآن کریم تاکید فرماتا ہے (ادعوا ربکم تضرعا و خفیه) (۵) تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور خاموشی سے پکارو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا تضرع و زاری کی نشانی ہے (۶) فقیر انسان اپنے ہاتھ کو بے نیاز مطلق کی طرف پھیلاتا ہے۔ فقط اسی سے مانگتا ہے اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔

اگرچہ نماز میں قنوت مستحب ہے لیکن اس کے اوپر اتنی توجہ دی گئی ہے کہ امام رضا - مأمون کو خط میں لکھتے ہیں کہ قنوت رات دن کی ہر نماز میں ایک واجب سنت ہے (۷)

.....

- ۱۔ آل عمران ۴۳۔
- ۲۔ مزمل ۸۲۔ ۸ صفحہ ۱۹۷۔
- ۳۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۹۱۲۔
- ۴۔ مفردات راغب۔
- ۵۔ اعراف ۵۵۔
- ۶۔ معانی صدوق صفحہ ۳۶۹۔
- ۷۔ بحار الانوار جلد ۸۲ صفحہ ۱۹۷۔

البتہ اس سے امام کی مراد قنوت کی اہمیت کی وضاحت ہے۔ چنانچہ اگر انسان رکوع سے پہلے اس کو بھول جائے تو مستحب ہے کہ رکوع کے بعد اس کی قضا کرے اور اگر سجدہ میں یاد آئے تو سلام کے بعد اس کی قضا کرے۔ قنوت کے آداب میں آیا ہے کہ ہاتھوں کو چہرے کے برابر تک بلند کریں۔ ہاتھوں کی ہتھیلی چہرے کے بالکل سامنے اور آسمان کی طرف ہو۔ دونوں ہاتھوں کو برابر ملائیں اور انگوٹھے کے علاوہ ساری انگلیاں آپس میں چپکی ہوں۔ دعا پڑھتے وقت نظر ہتھیلی پر ہو دعا بلند آواز میں پڑھیں لیکن آواز اتنی بلند نہ ہو کہ امام جماعت کو سنائی دے۔ (۱)

قنوت کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے انسان ہر دعا پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دعا عربی میں ہو اپنی زبان میں بھی اپنی حاجت کہی جاسکتی ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ قرآن کریم کی دعائیں یا وہ دعائیں جو ائمہ معصومین % اپنے قنوت میں پڑھتے تھے ان کی اپنی فضیلت اور اولویت ہے۔

مختلف نمازوں کے قنوت

نمازوں میں قنوت کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے۔ پنجگانہ نمازوں میں صرف ہر نماز میں ایک قنوت دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے ہے۔ لیکن نماز جمعہ دو رکعت ہے اور اس میں دو قنوت ہیں۔ ایک رکعت اول میں رکوع سے پہلے دوسرا دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہے۔

نماز عید فطر و عید قربان میں دو رکعت میں ۹ قنوت پڑھے جاتے ہیں پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ۵ قنوت پے در پے ، اسی طرح دوسری رکعت میں ۴ قنوت ۔

۱۔ توضیح المسائل : قنوت کے مسائل ۔

البتہ ان قنوت کے لئے ایک خاص دعا وارد ہوئی ہیں ۔ حتی نماز آیات جو دو رکعت ہے اور اس کی ہر رکعت میں ۵ رکوع ہیں ۔ اس میں مستحب ہے کہ دوسرے ، چوتھے ، چھٹے ، آٹھویں اور دسویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھا جائے اگر چہ صرف دسویں رکوع سے پہلے ایک قنوت بھی کافی ہے ۔

نماز وتر جو ایک رکعت ہے اور نماز شب کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کا قنوت طویل ہے اس قنوت میں کافی دعائیں ہیں جن میں ۷۰ مرتبہ استغفار ، ۳۰۰ مرتبہ العفو اور چالیس مؤمنوں کے لئے دعا ہے ۔

نماز استسقاء میں بھی نماز عید کی طرح ہے پہلی رکعت میں ۵ قنوت اور دوسری رکعت میں ۴ قنوت ہیں ۔ بہر حال قنوت کو لمبا پڑھنا مستحب ہے جناب ابوذر نے پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال کیا کہ کون سی نماز اچھی ہے ؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایسی نماز جس کا قنوت طویل ہو اور جو لمبے قنوت پڑھتا ہے اس کے لئے قیامت میں آسانی ہے ۔ (۱)

معصومین کے قنوت

ابن مسعود اپنے مسلمان ہونے کی وجہ تین شخصیات : پیغمبر اکرم ﷺ ، حضرت علی ۔ اور حضرت خدیجہ * کی نماز اور ان کے طولانی قنوت کو سمجھتے ہیں ۔ (۲)

زیارت آل یس میں حضرت مہدی (عج) کو سلام کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں :

" السلام علیک حین تصل و تقنت "

آپ پر سلام ہو جب آپ نماز اور قنوت کے وقت کھڑے ہوتے ہیں ۔

ہر معصوم سے قنوت کی بڑی بڑی دعائیں نقل ہوئی ہیں ، جن کے لکھنے کا یہاں امکان نہیں

(۱) بحار ج ۸۲ صفحہ ۲۰۰ ۔

(۲) بحار ج ۳۸ صفحہ ۲۸۰ ۔

ہے اور اس بات پر تعجب ہے کہ قنوت ، جس کی اتنی برکتیں ہیں وہ اہل سنت کے یہاں سے کیوں ختم ہو گیا ۔ کیا حضرت علی ۔ اور خلفاء راشدین نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے ؟

قنوت میں صرف اپنی اور اپنی حاجت کی فکر میں نہ رہنا چاہیئے بلکہ حضرت زہرا * سے سبق لینا چاہئے آپ نے فرمایا :

" الجار ثم الدار " (۱) پہلے پڑوسی کی فکر کرو پھر اپنے گھر والوں کی ۔ " اس لئے کہ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ جو دوسروں کے لئے دعا کرے گا خدا اس کی بھی حاجت پوری کرے گا ۔

قنوت میں دشمنان دین کے لئے بد دعا کریں اور اسلام و مسلمین کے لئے دعا کریں ۔

رسول اکرم ﷺ اپنے قنوت میں کچھ لوگوں پر ان کے نام اور ان کی خصوصیات کے ساتھ لعنت کرتے تھے ۔

بہر حال تو لا اور تبرّا دین کا جز ہی نہیں بلکہ ہمارے دین کی بنیاد ہے ۔

" هل الدين لا الحبّ و البغض " (۲) ۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۴۳ صفحہ ۸۱ ۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۶۸ صفحہ ۶۳ ۔

نماز کی تفسیر

نواں باب

تشہد و سلام

تشہد

(اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسولہ اللہم صل علی محمد و آل محمد)
تشہد واجبات نماز میں سے ہے۔ یہ دوسری رکعت اور نماز کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ تشہد میں ہم خداوند عالم کی وحدانیت اور حضرت پیغمبر ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اگرچہ اذان و اقامت میں بارہا اسی چیز کی گواہی دے چکے ہیں لیکن وہ گواہی نماز میں داخل ہونے کے وقت تھی اور یہ گواہی نماز کے اختتام پر ہے۔ اتنی زیادہ تکرار اس حکمت کی بنا پر ہے کہ انسان غفلت میں جلد ہی مبتلا ہو جاتا ہے اور نعمت عطا کرنے والے کو بھلا دیتا ہے اور یہ جملے اس رسی کی طرح ہیں جو انسان کو حوادث کی موجوں سے نجات دیتی ہے۔

توحید کا نعرہ

" لا الہ الا اللہ " ، تمام انبیاء کا سب سے پہلا نعرہ ہے۔
" لا الہ الا اللہ " وہ گواہی ہے جس کا صاحبان علم ، فرشتوں کے ساتھ اقرار کرتے ہیں (شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو و الملائکۃ و اولوا العلم) (۱)

۱۔ آل عمران ۱۸ .

" لا الہ الا اللہ " ایسا کلمہ ہے کہ ہر مسلمان اسے پیدائش کے وقت سنتا ہے اور مرنے کے بعد ، اس کے ذریعہ اس کی تشبیع اور قبر مینسب سے پہلے اسی کی تلقین کی جاتی ہے۔

" لا الہ الا اللہ " خدائے تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمہ اور میزان میں سب سے وزنی عمل ہے۔ (۱)
" لا الہ الا اللہ " اللہ کا سب سے مضبوط قلعہ ہے جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے امان میں ہے " کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن فمن دخل حصنی امن من عذاب " (۲)

" لا الہ الا اللہ " ، کفر اور اسلام کی حد فاصل ہے۔ کافر اس کو کہنے سے اسلام کی امان میں آجاتا ہے۔ پیغمبر ﷺ اکرم نے ایک ایسے مسلمان پر تنقید کی جس نے دشمن سپاہی کے کلمہ " لا الہ الا اللہ " کہنے پر توجہ نہیں دی تھی اور اس کو قتل کر دیا تھا اور فرمایا اس کلمہ کا اظہار کرنے کے بعد ہر شخص امان میں ہے اگرچہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ (۳)

" لا الہ الا اللہ " قیامت کے روز صراط سے گزرنے کے وقت مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ (۴)
ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ابو جہل نے پیغمبر اکرم ﷺ سے کہا : کیا ہم ۳۶۰ بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کو مان لیں؟؟ !! ہم حاضر ہیں کہ ۱۰ کلمے کہیں لیکن یہ ایک کلمہ نہ کہیں۔ لیکن پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ : یہی ایک جملہ تم کو عزت اور قدرت بخشے گا اور تم کو تمام امتوں پر فضیلت دے گا۔ (۵)

امام حسین - کی دعائے عرفہ اور امام سجاد - کے شام والے خطبہ کو دیکھنے سے یہ حقیقت

۱. بحار الانوار جلد ۹۳ باب التہلیل و فضلہ .
۲. بحار الانوار جلد ۳ صفحہ ۱۳ .
۳. آیہ و لا تقولوا لمن القی الیک السلام لست مومنا " کی طرف اشارہ ہے سورنہ نساء ۹۴ .
۴. جامع احادیث جلد ۱ صفحہ ۱۸۸ .
۵. فرازبای از تاریخ اسلام صفحہ ۱۱۱ .

واضح ہو جاتی ہے کہ اولیائے خدا نے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کلمہ کی شہادت دی ہے حتیٰ کہ یہ حضرات زمین اور زمان کو اپنی اس شہادت پر گواہ بناتے تھے -

ہم تشہد میں صرف جملہ " لا الہ الا اللہ " پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں " وحدہ لا شریک لہ " یعنی کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے - نہ خلقت میں ، نہ اس کو چلانے میں اور نہ قانون بنانے میں (و لم یکن لہ شریک ف الملک) (۱) اللہ کی بندگی اولیائے خدا کا سب سے بڑا افتخار ہے (کفیٰ بی عزا ان اکون لک عبدا) (۲) خداوند عالم کی بندگی تمام قیود ، وابستگیوں اور دلچسپیوں سے انسان کی آزادی کے برابر ہے۔ یہ انسان کو ایسی قدرت دیتی ہے کہ انسان کسی بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔

فرعون کی بیوی صرف اس لئے کہ خدا کی کنیز تھی ، ایسی غیر متزلزل اور ٹھوس شخصیت میں تبدیل ہو گئی کہ فرعون کے سگوں اور زور و زر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر چہ فرعون نے سب کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا لیکن وہ صرف بندہ خدا تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تاریخ کے تمام مؤمن مرد و نوار عورتوں کے لئے نمونہ بن گئی (ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون) (۳)

بہر حال پیغمبرؐ کی عبودیت کی گواہی ان کی رسالت کی گواہی پر مقدم ہے اور خود اس میں متعدد درس اور پیغام ہیں " اشہد ان محمدا عبده و رسولہ "

رسالت کی گواہی کے معنی تمام بشری مکاتب فکر کا انکار ہے - اس کے معنی آخری پیغمبرؐ کی رسالت کو عالمی اور ہمیشہ رہنے والی رسالت کے طور پر ماننا ہے ، اس کے معنی تمام طاغوتی قوتوں اور سرکشوں کا انکار ہے۔

.....

۱. اسراء ۱۱۱ .
۲. بحار الانوار جلد ۷۷ صفحہ ۴۰۲ .
۳. تحریم ۱۱ .

حضرت محمدؐ کی رسالت کی شہادت اور گواہی ایک ایسا عہد ہے جو خداوند متعال نے تمام پیغمبروں سے لیا ہے - اگر وہ حضرات آپ کی رسالت کو قبول نہ کرتے تو انہیں نبوت نہ ملتی (۱) پس اس بنا پر صرف ہم اکیلے ہی " اشہد ان محمدا عبده و رسولہ " نہیں کہتے بلکہ سارے انبیاء اس کا اقرار کرتے تھے۔

حقیقی توحید

آج کل خدا کو ماننے والے اکثر لوگوں کو جس چیز نے جکڑ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زبان سے تو " لا الہ الا اللہ " کہتے ہیں لیکن عملاً اغیار کے پاس جاتے ہیں اور عزت و قدرت کو دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں - غیر خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اغیار سے محبت کرتے ہیں -

حقیقت میں شرک ، اپنے اوپر ایک بڑا ظلم اور اس ذات مقدس کی شان میں بے ادبی ہے (ان الشریک لظلم عظیم) (۲) اس لئے کہ شریک کا وجود اس کے کاموں میں اس کے ضعف و عاجزی اور اس کی ناتوانی کی علامت اور اس کی شبیہ و مثل کا وجود ہے - اور خداوند عالم کے بارے میں یہ چیزیں معنی نہیں رکھتیں ہیں -

رسالت کی گواہی

" اشہد ان محمدا عبده و رسولہ " ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں - " انبیاء کا سب سے بلند مقام، مقام بندگی ہے بلکہ یہ مقام رسالت و نبوت کا پیش خیمہ ہے

.....

۱. آل عمران ۸۱ .

"عبدہ و رسولہ" - عبودیت ہی رسول اکرم ﷺ کو معراج پر لے جاتی ہے : (سبحان الذ اسریٰ بعبدہ) (۱) اور آسمانی وحی کو آپ ﷺ پر نازل کرتی ہے : (نزلنا علیٰ عبدنا) (۲)

خدائے تعالیٰ بھی اپنے پیغمبروں کی بندگی کی تعریف کرتا ہے ، حضرت نوح - کے بارے میں فرماتا ہے (انہ کان عبدا شکورا) (۳) اور حضرت داؤد - کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے (نعم العبد) (۴)

انبیاء اور نابغہ و خلاق انسانوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی یہ استعداد اور خلاقیت اپنی تیز ہوشی، اور مسلسل مطالعہ اور مشق کی بنا پر حاصل کی ہے۔ لیکن انبیاء نے اپنے معجزات کو خداوند عالم کی بندگی کے نتیجے اور لطفِ خدا کے سائے میں حاصل کیا ہے۔ تمام انبیاء کے بلند مقامات کا سرچشمہ بندگی ہی ہے۔

پیغمبروں کی عبودیت کا اقرار ، اولیائے خدا کے بارے میں ہم کو ہر قسم کے غلو ، افراط اور زیادہ روی سے روکتا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ پیغمبر جو سب سے بلند فرد ہیں ، وہ بھی خدا کے بندے ہیں۔

یہ بات واضح رہے کہ یہ شہادت اور گواہی صداقت اور حقیقت کی بنا پر ہو ورنہ منافقین بھی رسول اکرم ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے : خدا شہادت دیتا ہے اے رسول ﷺ! تم اس کے رسول ہو لیکن منافقین جھوٹ کہتے ہیں ، اس لئے کہ ان کی گواہی سچی نہیں ہے۔ (۵)

- ۱۔ اسراء ۱۔
۲۔ بقرہ ۲۳۔
۳۔ اسراء ۳۔
۴۔ ص ۳۰۔
۵۔ منافقون ۱۔

نماز کی تفسیر

صلوات

اللہم صل علی محمد و آل محمد

توحید و رسالت کی گواہی کے بعد ہم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں۔
صلوات : پیغمبر اسلام ﷺ کے خاندان سے محبت و مودت اور وفاداری کی نشانی ہے۔ قرآن مجید اس کو پیغمبر ﷺ کی رسالت کا اجر قرار دیتا ہے۔ (۱)

صلوات : روح انسان کا زنگ صاف کرنے اور اسے صیقل دینے والی ہے (۲) اور نفاق کو ختم کرنے والی ہے۔ (۳)
صلوات : گناہوں کے محو ہونے کا سبب ہے (۴) آسمان کے دروازے کھلنے کا وسیلہ ہے۔ (۵) انسان کے حق میں فرشتوں کی استغفار اور دعاؤں کا سبب ہے۔ (۶) قیامت میں پیغمبر ﷺ سے قربت اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ (۷)
عاقبت اس کی اچھی ہے جس کا دنیا میں آخری کلام صلوات ہو۔ (۸) خدا پہلے خود صلوات بھیجتا ہے اور پھر ہم کو صلوات بھیجنے کا حکم دیتا

- ۱۔ شوریٰ ۲۳۔
۲۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۲۱۶۔

- ۳۔ کافی جلد ۲ صفحہ ۴۹۲ .
- ۴۔ بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۵۴ .
- ۵۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۲۲۰
- ۶۔ مرآة العقول جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۹ .
- ۷۔ بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۶۳
- ۸۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۲۱۶ .

ہے: (ان الله و ملائكتہ يصلون على النب يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما) (۱) بیشک الله اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ اس آیت اور اس سے متعلق روایتوں سے کچھ نکتے حاصل ہوتے ہیں:

(۱) صلوات: زبانی احترام ہے لیکن اس سے اہم عملی اطاعت ہے۔ جملہ: (سلموا تسليما) اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

(۲) خداوند متعال اور فرشتوں کی صلوات دائمی ہے (یصلون)

(۳) خداوند عالم کی صلوات کرامت، فرشتوں کی صلوات رحمت اور انسانوں کی صلوات دعا ہے۔

(۴) روایتوں میں آیا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے خطاب کیا کہ محمدؐ اور ان کی آل پر صلوات بھیجو اس لئے کہ مینا اور فرشتے ان کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں۔ (۲)

(۵) رسول خداؐ نے فرمایا: یاد خدا عبادت ہے اور ہماری یاد بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ہمارے جانشین علی بن ابیطالب کی یاد بھی عبادت ہے۔ (۳)

(۶) روایتوں میں آیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لئے دعا سے پہلے صلوات بھیجو۔ (۴) نہ تنہا ان کا نام سننے پر صلوات پڑھنا بلکہ ان کا نام لکھنے کے بعد صلوات کو لکھنا بھی ثواب رکھتا ہے اور پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا جو شخص اپنی تحریر میں ہمارے اوپر صلوات بھیجے جب تک ہمارا نام اس تحریر میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔ (۵)

.....

- ۱۔ احزاب ۵۵ .
- ۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ صفحہ ۳۰۵ .
- ۳۔ بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۶۹ .
- ۴۔ بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۶۴ .
- ۵۔ بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۷۱ .

صلوات کا طریقہ

اہل سنت کی اہم کتابوں میں رسولؐ سے نقل ہوا ہے کہ صلوات پڑھتے وقت آل محمد کا نام رسولؐ کے نام کے ساتھ ضرور لیا کرو ورنہ تمہاری صلوات ابتر اور ناقص ہے۔ (۱)

تفسیر در المنثور میں صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابی داؤد اور ابن ماجہ (جو اہل سنت کی سب سے اہم کتابیں ہیں) نقل ہوا ہے: ایک شخص نے رسول اکرمؐ سے سوال کیا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو سلام کیسے کریں لیکن آپؐ پر صلوات کس طرح بھیجیں؟ پیغمبرؐ نے فرمایا اس طرح سے کہو: "اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد" (۲)

امام شافعی اپنے اشعار میں اس بات کو یوں کہتے ہیں:

يا اهل بيت رسول الله حيكم
فرض من الله ف القرآن انزلہ
كفاكم من عظيم القدر انكم
من لم يصل عليكم فلا صلوة له (۳)

" اے اہل بیت رسولؑ! تمہاری محبت خدا کی طرف سے قرآن میں فرض ہوئی ہے۔ تمہاری عظمت کے لئے یہی بس ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں تمہارے اوپر صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز باطل ہے۔ "

.....

- ۱۔ تفسیر نمونہ جلد ۱۷ صفحہ ۴۲۰ کے مطابق۔
- ۲۔ تفسیر المیزان جلد ۱۶ صفحہ ۳۶۵ کے مطابق ، صحیح بخاری جلد ۶ صفحہ ۱۵۱ ۔
- ۳۔ الغدير ۔

جی ہاں! ہر نماز میں آل محمدؑ کی یاد اس بات کا راز ہے کہ رسول اکرمؐ کے بعد ان کے اہل بیتؑ کے نقش قدم پر چلیں اور دوسروں کے پیچھے نہ جائیں ورنہ ایسے لوگوں کا نام لینا جن کے مشن کو ہمیشہ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں؛ وہ بھی ہر نماز میں، ایک عبث کام ہوگا۔

ایک شخص کعبہ سے چپکا صلوات بھیج رہا تھا لیکن آل محمدؑ کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام صادقؑ نے فرمایا: یہ ہمارے اوپر ظلم ہے۔ (۱)

رسول خداؐ نے فرمایا: جو لوگ میری آل کو صلوات سے محروم کریں، ان تک جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی۔ (۲)

چنانچہ وہ مجالس و محافل جن میں خدا کا نام اور محمدؐ و آل محمدؑ کی یاد نہ ہو، قیامت میں حسرت اور افسوس کا باعث ہوں گی۔ (۳)

حقیقت تو یہ ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جس وقت خدا کے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا نام لیا جائے تو پہلے حضرت محمدؐ اور ان کی آل پر صلوات بھیجو پھر اس پیغمبر پر صلوات بھیجو۔ (۴)

رسول خداؐ نے فرمایا: حقیقی کنجوس وہ ہے جو ہمارا نام سننے اور صلوات نہ بھیجے۔ ایسا شخص سب سے زیادہ جفا کرنے والا اور سب سے زیادہ بے وفا ہے۔ (۵)

سلام

صلوات کے بعد ہم تین سلام پڑھتے ہیں۔ ایک رسول خداؐ پر، ایک اولیائے خدا پر، اور ایک مؤمنین اور اپنے مذہب والوں پر۔

.....

- ۱۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۲۱۸ ۔
- ۲۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۲۱۹ ۔
- ۳۔ کافی جلد ۲ صفحہ ۹۷ ۔
- ۴۔ بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۴۸ ۔
- ۵۔ وسائل جلد ۴ صفحہ ۱۲۲۰ ۔

پروردگار اس آیت (یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیما) میں صلوات کے بعد حکم دیتا ہے کہ پیغمبرؐ پر سلام کرو لہذا نماز میں ان کے اوپر صلوات بھیجنے کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں "السلام علیک ایہا النبی و رحمة اللہ و برکاتہ"۔ تکبیر الاحرام کہتے ہی ہم مخلوق سے جدا ہو گئے اور خالق سے مل گئے اور نماز کے آخر میں سب سے پہلے گلدستہ موجودات کے سب سے اعلیٰ پھول یعنی پیغمبر اکرمؐ پر سلام کیا۔ اس کے بعد خدا کے صالح و نیک بندوں کو سلام کیا "السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین" اس سلام میں سب انبیاء، اوصیاء اور ائمہ معصومین شامل ہیں۔ خدا بھی اپنے تمام پیغمبروں پر سلام و درود بھیجتا ہے۔

(سلام علی المرسلین) (۱) (سلام علی نوح) (۲) (سلام علی ابراہیم) (۳) (سلام علی موسیٰ و ہارون) (۴)

سلام سے، ہم خدا کے صالح بندوں سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ایسا رشتہ اور رابطہ جو زمان و مکان سے بالاتر، پوری تاریخ میں ہر زمانے اور ہر نسل کے پاک اور صالح لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔

اس کے بعد اپنے موجودہ دینی بھائیوں اور ساتھی مؤمنین تک پہنچتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمین کی جماعت میں شرکت کی ہے اور ہمارے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہیں۔ ان کے اوپر اور ان فرشتوں پر جو مسلمانوں کے درمیان ہیں اور وہ دو فرشتے جو ہمارے اوپر مأمور ہیں کو سلام کرتے ہیں "السلام علیکم و رحمة اللہ و برکاتہ"

.....

۱. صافات ۱۸۱ .

۲. صافات ۷۹ .

۳. صافات ۱۰۹ .

۴. صافات ۱۲۰ .

نماز، خدا کے نام سے شروع کی اور خلق خدا پر سلام کر کے ختم کر دی۔ ان سلاموں میں محفوظ مراتب کی رعایت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے رسول خداؐ، ان کے بعد انبیاء، اولیاء، صالحین اور ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے مؤمنین۔

سلام کی تصویر

- سلام : خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
- سلام : ایک دوسرے کے لئے اہل جنت کا آداب اور اظہار عقیدت ہے۔
- سلام : جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتوں کی تحیت ہے۔
- سلام : پروردگار رحیم کا پیغام ہے۔
- سلام : شب قدر کی ضیافت ہے۔
- سلام : ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق ہے۔
- سلام : ہر بات اور ہر تحریر کی کنجی ہے۔
- سلام : ہر قسم کے ڈر اور شر سے امان نامہ ہے۔
- سلام : سب سے آسان عمل ہے۔
- سلام : تواضع و انکساری کی علامت ہے۔
- سلام : محبت و الفت کا سبب ہے۔
- سلام : صلح و آشتی کا اظہار ہے۔
- سلام : دو افراد کا ایک دوسرے کو سب سے پہلا ہدیہ اور تحفہ ہے۔
- سلام : بندگان خدا کی سلامتی کی آرزو ہے۔
- سلام : عالمی صلح و سلامتی کی دعوت ہے۔
- سلام : نشاط اور امید افزا ہے۔
- سلام : پرانی کدورتوں کو برطرف کرنے والا ہے۔
- سلام : اپنی موجودگی کا اعلان اور داخلے کی اجازت ہے۔
- سلام : کہیں آتے اور جاتے وقت بہترین کلام ہے۔
- سلام : ایسا کلام ہے جو زبان پر ہلکا اور میزان پر وزنی ہے۔
- سلام : معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کے لئے راستہ ہموار کرنے والا ہے۔
- سلام : ایسا کلام ہے جس کے مخاطب مردہ اور زندہ سب ہیں۔
- سلام : تعظیم اور تکریم کا باعث ہے۔
- سلام : رضائے الہی کے حصول اور شیطان کے غضب کا سبب ہے۔
- سلام : دلوں میں خوشی داخل کرنے کا وسیلہ ہے۔
- سلام : گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں کو زیادہ کرنے والا ہے۔
- سلام : انس و دوستی کا پیغام لانے والا ہے۔
- سلام : خود خواہی اور تکبر کو دور کرنے کا باعث ہے۔
- سلام : سیرت معبود ہے۔
- سلام : ہر خیر و خوبی کا استقبال ہے۔
- سلام : ایسا کمال ہے جس کو ترک کرنا کنجوسی، تکبر، تنہائیوں پر سا ئبان بنا تے ہیں اسی لئے، غصہ اور قطع رحم ہے۔
- سلام : رحمت کا وہ بادل ہے جسے ہم لوگوں کے سرکھتے ہیں " السلام علیکم " نہ " السلام لکم "۔ پیغمبر ﷺ اکرم فرماتے ہیں : میناخر عمر تک بچوں کو سلام کرنا ترک نہیں کروں گا۔ (۱) اگرچہ سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب واجب ہے

لیکن سلام میں پہل کرنے والے کی جزا جواب دینے والے کی جزا سے دسیوں گنا زیادہ ہے -
ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ سوار پیدل چلنے والوں کو ، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو اور آنے والا پہلے سے موجود لوگوں
کو سلام کرے - (۲) قرآن حکیم فرماتا ہے : جس وقت تم کو سلام کیا جائے یا مبارک بادپیش کی جائے تو اس کا جواب اس
سے بھی گرم جوشی اور بہتر طریقہ سے دو (اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها) (۳)

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاتہ
تمت بالخیر

.....

- ۱۔ بحار الانوار جلد ۱۶ صفحہ ۹۸ ۔
- ۲۔ بحار الانوار جلد ۸۴ صفحہ ۲۷۷ ۔
- ۳۔ سورنہ نساء آیہ ۸۱ ۔